

بسم الله

قرآن مجید میں استعمال شدہ

بعض منتخب افعال

(اہم صیغوں اور انکے معانی کے ساتھ)

بِسْمِ اللّٰهِ

الحمدُ لله والصلوةُ والسلامُ على رسول الله

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بالکل واضح طور پر فرمایا: "ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں" (سورۃ ص، آیت 29)۔ احادیث میں بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے"۔

اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک کتابچہ "قرآن مجید کے 80% الفاظ" تیار کیا تھا جس میں چند منتخب افعال کے سامنے * لگایا گیا تھا۔ اس کتاب میں انہی افعال کے (مذکر کے) تفصیلی صیغے دیئے گئے ہیں تاکہ مبتدی طالب علم کو مختلف قسم کے افعال کے صیغے بنانے میں مدد مل سکے۔

اس کتابچہ کو استعمال کرتے وقت نیچے دی گئی باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ بات کو سمجھانے کے لئے ذیل کے نکات میں قواعد کی مصطلحات استعمال کی گئی ہیں۔ ایک مبتدی طالب علم کو کئی چیزیں اس کتابچہ میں دی گئی مثالوں کو دیکھ کر ان شاء اللہ خود بخود سمجھ میں آجائیں گی۔ استاد اور عام طالب علم (سوائے عربی زبان کے طلباء کے) کو ان مصطلحات کو استعمال کرنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے ورنہ سیکھنے والوں کے دل میں خواہ مخواہ عربی کا ڈر بیٹھ جائے گا اور اس ڈر سے وہ سیکھنا ہی چھوڑ دیں گے۔

• الفاظ کی تکرار اور ان کے معانی: ہر صفحہ پر اوپر کی طرف دائیں جانب "فعل" کے ساتھ ہی قوسین میں ایک عدد دیا گیا ہے۔ یہ عدد بتاتا ہے کہ قرآن میں وہ "فعل" اپنی مختلف شکلوں میں کتنی بار آیا ہے۔ بعض افعال کے متن کے اعتبار سے مختلف معانی ہوسکتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اس کتابچہ میں ہر فعل کے عام معانی ہی دیئے گئے ہیں۔

• مادہ اور مصدر: ہر صفحہ پر اوپر کی طرف بیچ میں فعل کا مادہ دیا گیا ہے۔ بائیں جانب مصدر اور اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔

• ضمائر: فعل ماضی کے صیغوں کی دائیں جانب الضمائر المنفصلة (Detached pronouns) اور فعل مضارع کے بائیں جانب الضمائر المتصلة (Attached pronouns) دیئے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ الضمائر المتصلة (Attached pronouns) کسی بھی فعل، اسم، یا حرف جر کے ساتھ آسکتے ہیں۔ اس بات کو اشارہ بتانے کے لئے ان ضمائر کے نتیجے میں

فعل۔ اسم۔ جر۔

 کا خانہ دیا گیا ہے۔

• فعل ماضی کی جھکے ہوئے الفاظ: فعل ماضی کے صیغوں کے fonts کو italics بنا دیا گیا ہے۔ کام ہوگا اس لئے اس کے الفاظ جھکا دیئے گئے۔ فعل مضارع کے صیغوں کے fonts کو عام fonts کی طرح سیدھا (upright) رکھا گیا ہے، گویا یہ کام ہورہا ہے یا ہونے والا ہے۔

• مثنیٰ کے صیغے: چونکہ قرآن مجید میں مثنیٰ (2, dual) کے صیغے کم استعمال ہوئے ہیں اس لئے ان صیغوں کے الفاظ کا سائز (fontsize) چھوٹا رکھا گیا ہے۔

• فعل ماضی کے صیغوں کی خاصیت: فعل ماضی (غائب، حاضر، یا متکلم کے لئے واحد، مثنیٰ، جمع) کے صیغے اپنی مختلف حالتوں میں اپنے آخری حروف کو بدلتے رہتے ہیں۔ ان حروف کی تبدیلی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل واحد ہے یا جمع، حاضر ہے یا متکلم وغیرہ۔ اسی بات کو آسانی سے ذہن نشین کرانے کیلئے تصویروں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی روڈ پر کھڑے ہوں تو آپ کو جانے والی کار، ٹرک، یا جیپ کا صرف پچھلا حصہ نظر آتا ہے۔ پچھلے حصہ کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کونسی چیز تھی جو چلی گئی۔ اگر آپ رن وے پر کھڑے ہوں تو اڑتے ہوئے (جو چلا گیا یا گویا ماضی ہو گیا) ہوائی جہاز کا صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا جس کی دم پر یہ تبدیلیاں (-، وا، ت، تم، ن، نا) بنائی گئی ہیں۔

• فعل مضارع کے صیغوں کی خاصیت: فعل ماضی کے برخلاف فعل مضارع میں صیغوں میں اہم تبدیلی سامنے کے الفاظ میں ہوتی ہے (سوائے اختتامی کلمات -ون، -ان، -ین کے)۔ ان تبدیلیوں (ی، ت، ا، ن) کو اترتے ہوئے (گویا حاضر یا مستقبل) جہاز کی نوک پر بتایا گیا ہے۔ یہ دونوں تصویریں مبتدئین کے ذہن میں اس بات کو بٹھانے کے لئے دکھائی گئی ہیں کہ فعل ماضی کے صیغوں کی دم بدلتی رہتی ہے اور فعل مضارع کے صیغوں کا منہ۔

• معروف و مجہول: عام طور پر معروف (active voice) کے صیغوں کے مقابلے میں مجہول (passive voice) کے صیغوں میں صرف شروع کے تین حروف کے اعراب (زیر، زبر، پیش، یا جزم) پر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اسلئے مجہول کے لئے صرف واحد مذکر غائب کے صیغے ایک ہی لائن میں دیئے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس بنیاد پر آپ مجہول کے باقی سارے صیغے بنا سکیں گے۔

• فعل متعدی: فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ضَرْبَ، قَتَحَ، وغیرہ۔ فعل متعدی کی دو قسمیں ہیں: معروف اور مجہول۔ جس صفحہ پر فعل متعدی آیا ہے وہاں مجہول کے صیغے اور اسم مفعول کا کالم دیا گیا ہے۔

• فعل لازم: فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے قَامَ، ذَهَبَ، وغیرہ۔ اسی وجہ سے جس صفحہ پر فعل لازم آیا ہے وہاں مجہول کے صیغے اور اسم مفعول کا کالم خالی رکھا گیا ہے۔

• ثلاثی مجرد وثلاثی مزید فیہ (VEL): صرف فعل ثلاثی مجرد (VT-1) "فَعَلَ" اور فعل ثلاثی مزید فیہ کے سارے ابواب (VT-2 till VT-10) (فَعَّلَ، فَاعَلَ، ... وغیرہ) کے لئے مذکر ومؤنث کے سارے صیغے دیئے گئے ہیں۔ دوسرے افعال کے لئے صرف مذکر کے صیغے دیئے گئے ہیں۔ فعل ثلاثی مزید فیہ (VEL or Verbs with Extra Letters) کے ساتھ دیا گیا نمبر یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً VT-4 کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس صفحہ پر دیا گیا فعل باب افعال سے تعلق رکھتا ہے۔

- ایک مشورہ: اگر آپ قرآن فہمی کی کلاس پڑھا رہے ہوں تو فَعَلَ (مذکر) کے صفحہ کو بڑا (enlarge) کر کے ایک پوسٹر بنا لیجیے۔ اس پوسٹر کو بلیک بورڈ کے ساتھ ہی دیوار پر لگا دیجیے۔ مختلف افعال کی مشق کراتے ہوئے یا نئے صیغے کو سمجھاتے وقت اسے استعمال کیجیے۔

فَعَلَ کے صیغے سکھانے کا مؤثر طریقہ: عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عربی کلاس میں "فعل کے صیغے" سمجھانا سب سے مشکل سبق ہے۔ اسی وقت سے لوگ کلاس سے ڈراپ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر آواز کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشاروں کو بھی استعمال کیا جائے تو یہ صیغے باسانی سے طلباء کے ذہن میں بیٹھ سکتے ہیں۔

1. جب آپ فَعَلَ (اس نے کیا) کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں، گویا "وہ شخص" آپ کی دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جب آپ فَعَلُوا (انہوں نے کیا) کہیں تو سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے دائیں جانب اشارہ کریں۔ اگر کلاس چل رہی ہو تو استاد اور طالب علم دونوں اسی طرح کریں۔

2. جب آپ فَعَلْتَ (آپ نے کیا) کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے سامنے کی جانب بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کریں۔ پھر جب آپ فَعَلْتُمْ (آپ سب نے کیا) کہیں تو سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے سامنے (سارے طلباء کی جانب) اشارہ کریں۔ اگر کلاس چل رہی ہو تو استاد طالب علم کی طرف اور طالب علم استاد کی طرف اشارہ کرے۔

3. جب آپ فَعَلْتُ (میں نے کیا) کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے خود کی جانب اشارہ کریں۔ پھر جب آپ فَعَلْنَا (ہم نے کیا) کہیں تو سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے خود کی جانب اشارہ کریں۔

4. یہی طریقہ فعل مضارع کے لیے استعمال کیا جائے۔

5. إِفْعَلْ کہتے وقت تشہد کی انگلی سے سامنے کی جانب اس طرح (ہاتھ کو تھوڑا اوپر سے نیچے کی طرف لاتے ہوئے) اشارہ کریں گویا آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہوں۔ إِفْعَلُوا کے لیے یہی اشارہ چاروں انگلیوں سے کیا جائے۔

6. لَا تَفْعَلْ کہتے وقت تشہد کی انگلی سے سامنے کی جانب اس طرح (ہاتھ کو بائیں سے دائیں جانب لاتے ہوئے) اشارہ کریں گویا آپ سامنے والے کو منع کر رہے ہوں۔ لَا تَفْعَلُوا کے لیے یہی اشارہ چاروں انگلیوں سے کیا جائے۔

7. الضمائر المنفصلة اور الضمائر المتصلة کے لیے بھی نمبر 1 سے 3 والے اشارے استعمال کیے جائیں۔ البتہ الضمائر المتصلة کو کسی اسم، حرف جر، یا فعل متعدی کے ساتھ جڑا کر مشق کروائی جائے۔

مراجعے: اس کتاب کی تیاری میں مختلف کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ ان میں سب سے اہم کتاب (قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تکرارها. مكتبة لبنان. لبنان. 1990) ہے جو دراصل جامعة الملك سعود کے معهد اللغة العربية کے تحت د. محمد حسين ابو الفتوح نے تیار کی تھی۔ جہاں تک الفاظ کے معانی کا تعلق ہے تو اس کے لیے زیادة تر مولانا عبدالرشيد نعمانی کی لغات القرآن (6 جلد) سے مدد لی گئی ہے۔

Abbreviations

<i>mg</i> masc. gender	<i>fg</i> fem. gender	<i>br.pl</i> broken plural
<i>sg</i> singular	<i>dl</i> dual	<i>pl</i> plural
<i>sb</i> somebody	<i>st</i> something	<i>ss</i> somebody or something
VT Verb type (from 1 till 10)	VEL: trilateral Verbs with Extra Letters (فعل ثلاثي مزید فیہ); from VT-2 till VT-10	

اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے اور اگر ہوگی ہوں تو معاف فرمائے۔ اگر آپ اس میں کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم ضرور مطلع فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اسکی تصحیح ہوسکے۔

اس کتابچہ میں دیے گئے افعال کی فہرست

S. No.	Conjugation for the verb	Meaning	No. of times in the Qur'an	Root letters	Verb type (VT)	Verb type (VT)	Page No.
1	فَعَلَ	اس نے کیا	108	ف ع ل	باب فَتَحَ	VT-1	1
2	فَعَلَتْ	اس نے کیا	-	ف ع ل	باب فَتَحَ	VT-1	2
3	فَتَحَ	اس نے کھولا	29	ف ت ح	باب فَتَحَ	VT-1	3
4	جَعَلَ	اس نے بنایا	346	ج ع ل	باب فَتَحَ	VT-1	4
5	نَصَرَ	اس نے مدد کی	92	ن ص ر	باب نَصَرَ	VT-1	5
6	ذَكَرَ	اس نے یاد کیا	163	ذ ك ر	باب نَصَرَ	VT-1	6
7	عَبَدَ	اس نے عبادت کی	143	ع ب د	باب نَصَرَ	VT-1	7
8	كَفَرَ	اس نے کفر کیا	461	ك ف ر	باب نَصَرَ	VT-1	8
9	ضَرَبَ	اس نے مارا یا مثال دی	58	ض ر ب	باب ضَرَبَ	VT-1	9
10	ظَلَمَ	اس نے ظلم کیا	266	ظ ل م	باب ضَرَبَ	VT-1	10
11	سَمِعَ	اس نے سنا	100	س م ع	باب سَمِعَ	VT-1	11
12	عَلِمَ	اس نے جانا	518	ع ل م	باب سَمِعَ	VT-1	12
13	عَمِلَ	اس نے عمل کیا	318	ع م ل	باب سَمِعَ	VT-1	13
14	ضَلَّ	وہ گمراہ ہوا	113	ض ل ل	مُضَاعَفَ	VT-1	14
15	ظَنَّ	اس نے گمان کیا، یقین کیا	68	ظ ن ن	مُضَاعَفَ	VT-1	15
16	وَجَدَ	اس نے پایا	107	و ج د	مِثَال	VT-1	16
17	وَعَدَ	اس نے وعدہ کیا	124	و ع د	مِثَال	VT-1	17
18	قَالَ	اس نے کہا	1719	ق و ل	أَجُوفَ	VT-1	18
19	كَانَ	وہ تھا، وہ ہے	1361	ك و ن	أَجُوفَ	VT-1	19
20	زَادَ	وہ زیادہ ہوا	51	ز ي د	أَجُوفَ	VT-1	20
21	دَعَا	اس نے پکارا، بلایا	197	د ع و	نَاقِصَ	VT-1	21
22	هَدَى	اس نے ہدایت دی	163	ه د ي	نَاقِصَ	VT-1	22
23	خَشِيَ	اس نے خوف کھایا، ڈرا	48	خ ش ي	نَاقِصَ	VT-1	23
24	أَمَرَ	اس نے حکم دیا	232	أ م ر	مَهْمُوزَ	VT-1	24
25	رَأَى	اس نے دیکھا	269	ر أ ي	مَهْمُوزَ	VT-1	25
26	أَتَى	وہ آیا	263	أ ت ي	مَهْمُوزَ	VT-1	26
27	شَاءَ	اس نے چاہا، ارادہ کیا	277	ش ي أ	مَهْمُوزَ	VT-1	27
28	فَعَّلَ	-	-	ف ع ل	باب تَفْعِيلَ	VT-2	28
29	فَعَّلَتْ	-	-	ف ع ل	باب تَفْعِيلَ	VT-2	29

30	عَلَّمَ	اس نے سکھایا	42	ع ل م	باب تَفْعِيل	VT-2	30
31	كَذَّبَ	اس نے جھٹلایا	198	ك ذ ب	باب تَفْعِيل	VT-2	31
32	نَزَّلَ	اس نے اتارا	79	ن ز ل	باب تَفْعِيل	VT-2	32
33	فَاعَلَ	-	-	ف ع ل	باب مُفَاعَلَةٌ	VT-3	33
34	فَاعَلَتْ	-	-	ف ع ل	باب مُفَاعَلَةٌ	VT-3	34
35	جَاهَدَ	اس نے جہاد کیا	31	ج ہ د	باب مُفَاعَلَةٌ	VT-3	35
36	نَادَى	اس نے پکارا	44	ن د ی	باب مُفَاعَلَةٌ	VT-3	36
37	أَفْعَلَ	-	-	ف ع ل	باب إِفْعَال	VT-4	37
38	أَفْعَلَتْ	-	-	ف ع ل	باب إِفْعَال	VT-4	38
39	أَخْرَجَ	اس نے باہر نکالا	108	خ ر ج	باب إِفْعَال	VT-4	39
40	أَسْلَمَ	اس نے حکم مانا	72	س ل م	باب إِفْعَال	VT-4	40
41	أَشْرَكَ	اس نے شریک کیا	120	ش ر ك	باب إِفْعَال	VT-4	41
42	أَنْزَلَ	اس نے اتارا	190	ن ز ل	باب إِفْعَال	VT-4	42
43	أَضَلَّ	اس نے گمراہ کیا	68	ض ل ل	باب إِفْعَال	VT-4	43
44	أَرَادَ	اس نے ارادہ کیا	139	ر و د	باب إِفْعَال	VT-4	44
45	أَرَى	اس نے دکھایا	44	ر أ ی	باب إِفْعَال	VT-4	45
46	آمَنَ	وہ ایمان لایا	782	ا م ن	باب إِفْعَال	VT-4	46
47	آتَى	اس نے دیا	274	أ ت ی	باب إِفْعَال	VT-4	47
48	تَفَعَّلَ	-	-	ف ع ل	باب تَفَعُّل	VT-5	48
49	تَفَعَّلَتْ	-	-	ف ع ل	باب تَفَعُّل	VT-5	49
50	تَذَكَّرَ	اس نے نصیحت پکڑی	51	ذ ك ر	باب تَفَعُّل	VT-5	50
51	تَوَلَّى	اس نے منہ موڑا	79	و ل ی	باب تَفَعُّل	VT-5	51
52	اِفْتَعَلَ	-	-	ف ع ل	باب اِفْتِعَال	VT-8	52
53	اِفْتَعَلَتْ	-	-	ف ع ل	باب اِفْتِعَال	VT-8	53
54	اتَّبَعَ	اس نے پیروی کی	140	ت ب ع	باب اِفْتِعَال	VT-8	54
55	اهْتَدَى	اس نے ہدایت پائی	61	ه د ی	باب اِفْتِعَال	VT-8	55
56	اسْتَفْعَلَ	-	-	ف ع ل	باب اسْتِفْعَال	VT-10	56
57	اسْتَفْعَلَتْ	-	-	ف ع ل	باب اسْتِفْعَال	VT-10	57
58	اسْتَغْفَرَ	اس نے مغفرت چاہی	42	غ ف ر	باب اسْتِفْعَال	VT-10	58
TOTAL			10158				

To do,
act (of doing)
کرنے

مَصْدَر (Verbal noun)

فَعْل

بِسْمِ اللّٰهِ
ف ع ل

He did. فَعَلَ (108)
اس نے کیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. → when the subject is SING. or PLU.	He does. He will do. وہ کرتا ہے وہ کرے گا	He did. اس نے کیا	Starting verb in a verbal sentence. ← when the subject is SING. or PLU.
	You two do/ will do.	They two did.	
	They do. They will do. وہ کرتے ہیں وہ کریں گے	They all did. انہوں نے کیا	
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You do. You will do. آپ کرتے ہیں آپ کریں گے	You did. آپ نے کیا	near past: قَدْ + مَّاضِيٌّ
	You two do / will do.	You two did.	
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all do. You all will do. آپ سب کرتے ہیں آپ سب کریں گے	You all did. آپ سب نے کیا	Past continuous: كَانَ + مُضَارِعٌ
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I do. I will do. میں کرتا ہوں میں کروں گا	I did. میں نے کیا	
	We do. We will do. ہم کرتے ہیں ہم کریں گے	We did. ہم نے کیا	
	فَعْلٌ - جَر	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا

Negative نَعْيٌ	Imperative اَمْرٌ	
Don't do! مت کرا	Do! کرا	Singular
Don't (you two) do!	Do (you two)!	Dual
Don't (you all) do! مت کرو!	Do (you all)! کرو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
The one who is affected. وہ جس پر اثر پڑا	Doer. کرنے والا	Singular
The two who are affected.	Doers (two).	Dual
All those who are affected. وہ جن پر اثر پڑا	Doers. کرنے والے	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	مَجْهُولٌ Passive Voice
It is being done. کیا جاتا ہے	(It) is done. کیا گیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	She does. She will do. وہ کرتی ہے وہ کرے گی	She did. اس نے کیا	ہی
	You two do/ will do.	They two did.	ہُمَا
	They do. They will do. وہ کرتے ہیں وہ کریں گے	They all did. انہوں نے کیا	ہُنَّ
near future: سَ + مُضَارِع	You do. You will do. آپ کرتی ہیں آپ کریں گی	You did. آپ نے کیا	أَنْتِ
	You two do / will do.	You two did.	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all do. You all will do. آپ سب کرتی ہیں آپ سب کریں گی	You all did. آپ سب نے کیا	أَنْتُنَّ
	I do. I will do. میں کرتی ہوں میں کروں گی	I did. میں نے کیا	أَنَا
	We do. We will do. ہم کرتے ہیں ہم کریں گے	We did. ہم نے کیا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَرِّ - اسم -	ی ت ا ن	ت ن ت ت ن ت ت نا

Negative نہی	Imperative اَمْرٌ	
Don't do! مت کر!	Do! کرا!	Singular
Don't (you two) do!	Do (you two)!	Dual
Don't (you all) do! مت کرو!	Do (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
The one who is affected. وہ جس پر اثر پڑا	Doer. کرنے والی	Singular
The two who are affected.	Doers (two).	Dual
All those who are affected. وہ جن پر اثر پڑا	Doers. کرنے والیاں	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	تُفَعَّلُ (it) is being done. کی جاتی ہے	فُعِلَتْ (it) is done. کی گئی	ہِيَ Passive Voice
----------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

to open: to give victory
مَصْدَر (Verbal noun)
فَتَحَ

بِسْمِ اللّٰهِ
ف ت ح

He opened. فَتَحَ (29)

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He opens. He will open. وہ کھولتا ہے وہ کھولے گا	He opened. اس نے کھولا	هُوَ
	You two open/ will open. يَفْتَحَانِ	They two opened. فَتَحَا	هُمَا
	They open. They will open. وہ کھولتے ہیں وہ کھولیں گے	They all opened. انہوں نے کھولا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You open. You will open. آپ کھولتے ہیں آپ کھولیں گے	You opened. آپ نے کھولا	أَنْتَ
	You two open/ will open. تَفْتَحَانِ	You two opened. فَتَحْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all open. You all will open. آپ سب کھولتے ہیں آپ سب کھولیں گے	You all opened. آپ سب نے کھولا	أَنْتُمْ
	I open. I will open. میں کھولتا ہوں میں کھولوں گا	I opened. میں نے کھولا	أَنَا
	We open. We will open. ہم کھولتے ہیں ہم کھولیں گے	We opened. ہم نے کھولا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اسم -	يَا تَ أَنْ - فِعْلٌ - جَر - اسم -	

Negative نہی	Imperative اَمْر	
Don't open! مت کھول!	Open! کھول!	Singular
Don't (you two) open! مت کھولو!	Open (you two)!	Dual
Don't (you all) open! مت کھولو!	Open (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
that which is opened وہ جسے کھولا گیا	Opener کھولنے والا	Singular
مَفْتُوحَانِ، مَفْتُوحِينَ	فَاتِحَانِ، فَاتِحِينَ	Dual
those which are opened وہ جنہیں کھولا گیا	Openers. کھولنے والے	Plural
مَفْتُوحُونَ، مَفْتُوحِينَ	فَاتِحُونَ، فَاتِحِينَ	

مَجْهُول
Passive Voice

مَجْهُول
Passive Voice

to make; to place; to setup
بنانا
جَعَلَ (Verbal noun) مَصْدَر

بِسْمِ اللّٰهِ
ج ع ل

He made. جَعَلَ (346)

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He makes. He will make. وہ بناتا ہے وہ بنائے گا	He made. اس نے بنایا	هُوَ
	You two do/ will make. يَجْعَلَانِ	They two made. جَعَلَا	هُمَا
	They make. They will make. وہ بناتے ہیں وہ بنائیں گے	They all made. انہوں نے بنایا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You make. You will make. آپ بناتے ہیں آپ بنائیں گے	You made. آپ نے بنایا	أَنْتَ
	You two do / will make. تَجْعَلَانِ	You two made. جَعَلْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all make. You all will make. آپ سب بناتے ہیں آپ سب بنائیں گے	You all made. آپ سب نے بنایا	أَنْتُمْ
	I make. I will make. میں بناتا ہوں میں بنائوں گا	I made. میں نے بنایا	أَنَا
	We make. We will make. ہم بناتے ہیں ہم بنائیں گے	We made. ہم نے بنایا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - اسم - جَر -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت ا

Negative عِي	Imperative أَمْر	
Don't make! مت بنا!	Make! بنا!	Singular
Don't (you two) make! مت بناؤ!	Make (you two)! بناؤ!	Dual
Don't (you all) make! مت بناؤ!	Make (you all)! بناؤ!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
That which is made جسے بنایا گیا	Maker. بنانے والا	Singular
مَجْعُولَانِ، مَجْعُولَيْنِ	Makers (two). جَاعِلَانِ، جَاعِلَيْنِ	Dual
Those which are made جنہیں بنایا گیا	Makers. بنانے والے	Plural

مَجْهُول Passive Voice	يُجْعَلُ	جُعِلَ	هُوَ	مَجْهُول Passive Voice
	(it, he) is being made بنایا جاتا ہے	(it, he) is made بنایا گیا		

to help; to deliver مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

He helped. نَصَرَ (92) اس نے مدد کی

مدد کرنا

نَصَرَ

ن ص ر

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. → when the subject is SING. or PLU.	He helps. He will help. وہ مدد کرتا ہے وہ مدد کرے گا	He helped. اس نے مدد کی	هُوَ
	You two do/ will help.	They two helped.	هُمَا
	They help. They will help. وہ مدد کرتے ہیں وہ مدد کریں گے	They all helped. انہوں نے مدد کی	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You help. You will help. آپ مدد کرتے ہیں آپ مدد کریں گے	You helped. آپ نے مدد کی	أَنْتَ
	You two do / will help.	You two helped.	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all help. You all will help. آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے	You all helped. آپ سب نے مدد کی	أَنْتُمْ
	I help. I will help.	I helped.	أَنَا
(with noun) -ي (with verb) -ي	میں مدد کرتا ہوں میں مدد کروں گا	میں نے مدد کی	
	We help. We will help. ہم مدد کرتے ہیں ہم مدد کریں گے	We helped. ہم نے مدد کی	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اسم	يَ تَ اَنَّ	وَ ا ت تُمْ تْ اَنَّ

Starting verb in a verbal sentence. → when the subject is SING. or PLU.

near future: سَ + مُضَارِع

distant future: سَوْفَ + مُضَارِع

Starting verb in a verbal sentence. → when the subject is SING. or PLU.

near past: قَدْ + مَاضِي

Past continuous: كَانَ + مُضَارِع

Negative نَهْي	Imperative اَمْر	
Don't help! مت مدد کرا	Help! مدد کرا!	Singular
Don't (you two) help! مت مدد کرو!	Help (you two)! مدد کرو!	Dual
Don't (you all) help! مت مدد کرو!	Help (you all)! مدد کرو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is helped. وہ جس کی مدد کی گئی	One who helps. مدد کرنے والا	Singular
مَنْصُورَانِ، مَنْصُورَيْنِ	نَاصِرَانِ، نَاصِرَيْنِ	Dual
Those who are helped وہ جن کی مدد کی گئی	Those who help مدد کرنے والے	Plural
مَنْصُورُونَ، مَنْصُورِينَ	نَاصِرُونَ، نَاصِرِينَ	

مَجْهُول
Passive Voice

(it, he) is being helped مدد کی جاتی ہے	يُنَصَّرُ	(it, he) is helped مدد کی گئی	نُصِرَ	هُوَ
--	-----------	----------------------------------	--------	------

مَجْهُول
Passive Voice

to remember مَضَر (Verbal noun)
یاد کرنا ذِکْر

بِسْمِ اللّٰهِ
ذِکْر

He remembered. ذِکْر (163)
اس نے یاد کیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. → when the subject is SING. or PLU.	He remembers. He will remember. وہ یاد کرتا ہے وہ یاد کرے گا	He remembered. اس نے یاد کیا	هُوَ
	You two do/ will remember. يَذْكُرَانِ	They two remembered. ذَكَرَا	هُمَا
	They remember. They will remember. وہ یاد کرتے ہیں وہ یاد کریں گے	They all remembered. انھوں نے یاد کیا	هُمْ
near future: سَنَ + مُضَارِعٌ	You remember. You will remember. آپ یاد کرتے ہیں آپ یاد کریں گے	You remembered. آپ نے یاد کیا	أَنْتَ
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You two do / will remember. تَذْكُرَانِ	You two remembered. ذَكَرْتُمَا	أَنْتُمَا
	You all remember / will remember آپ سب یاد کرتے ہیں یا کریں گے۔	You all remembered. آپ سب نے یاد کیا	أَنْتُمْ
	I remember. I will remember. میں یاد کرتا ہوں میں یاد کروں گا	I remembered. میں نے یاد کیا	أَنَا
	We remember. We will remember. ہم یاد کرتے ہیں ہم یاد کریں گے	We remembered. ہم نے یاد کیا	نَحْنُ
	فعل - حرف - اسم	یَا تَ أَنْ	وَا تُمْ تْنَا

Negative نَهْيٌ	Imperative أَمْرٌ	
Don't remember! مت یاد کرا!	Remember! یاد کرا!	Singular
Don't (you two) remember! لَا تَذْكُرَا	Remember (you two)! اذْكُرَا	Dual
Don't (you all) remember! مت یاد کرو!	Remember (you all)! یاد کرو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is remembered وہ جس کو یاد کیا گیا	One who remembers یاد کرنے والا	Singular
	ذَنْ، ذَاكِرَيْنَا	Dual
Those who are remembered وہ جن کو یاد کیا گیا	Those who remember یاد کرنے والے	Plural

مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ
(it, he) is being remembered یاد کیا جاتا ہے	(it, he) is remembered یاد کیا گیا
Passive Voice	Passive Voice

to worship; to serve مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

عبادت کرنا

عِبَادَةٌ

ع ب د

He worshipped. عَبَدَ (143)

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He worships. He will worship. وہ عبادت کرتا ہے وہ عبادت کرے گا	He worshipped. اس نے عبادت کی	هُوَ
	You two do/ will worship. ہُمَا	They two worshipped. عَبَدَا	هُمَا
	They worship. They will worship. وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کریں گے	They all worshipped. انہوں نے عبادت کی	هُمْ
	You worship. You will worship. آپ عبادت کرتے ہیں آپ عبادت کریں گے	You worshipped. آپ نے عبادت کی	أَنْتَ
	You two do/ will worship. ہُمَا	You two worshipped. عَبَدْتُمَا	أَنْتُمَا
	You all worship. You all will worship. آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے	You all worshipped. آپ سب نے عبادت کی	أَنْتُمْ
near future: س + مُضَارِع	I worship. I will worship. میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا	I worshipped. میں نے عبادت کی	أَنَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	We worship. We will worship. ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کریں گے	We worshipped. ہم نے عبادت کی	نَحْنُ
	فَقْرٌ - اسم - كَرَّ	عَيَّتْ أَنْ - 	وَإِنْ تُمْ تَنَا - 

Negative نهي

Imperative امر

Negative نهي	Imperative امر	
Don't worship! مت عبادت کرو!	Worship! عبادت کرو!	Singular
Don't (you two) worship! لا تَعْبُدَا	Worship (you two)! أَعْبُدَا	Dual
Don't (you all) worship! مت عبادت کرو!	Worship (you all)! أَعْبُدُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول

Active participle اسم فاعل

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is worshipped وہ جس کی عبادت کی جائے	One who worships عبادت کرنے والا	Singular
مَعْبُودَانِ، مَعْبُودَيْنِ	عَابِدَانِ، عَابِدَيْنِ	Dual
Those who are worshipped وہ جن کی عبادت کی جائے	Those who worship عبادت کرنے والے	Plural
مَعْبُودُونَ، مَعْبُودِينَ	عَابِدُونَ، عَابِدِينَ	

مَجْهُول

Passive Voice

(it, he) is being worshipped عبادت کی جاتی ہے	يُعْبَدُ	(it, he) is worshipped عبادت کی گئی	عُبِدَ	هُوَ
--	----------	--	--------	------

مَجْهُول

Passive Voice

to strike
مارنا، مثال دینا

مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ
ض ر ب

He hit. ضَرَبَ (58)
اس نے مارا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He hits. He will hit. وہ مارتا ہے وہ مارے گا	He hit. اس نے مارا	هُوَ
	You two do / will hit. يَضْرِبَانِ	They two hit. ضَرَبَا	هُمَا
	They hit. They will hit. وہ مارتے ہیں وہ ماریں گے	They all hit. انہوں نے مارا	هُم
near future: سَنَ + مُضَارِعٌ	You hit. You will hit. آپ مارتے ہیں آپ ماریں گے	You hit. آپ نے مارا	أَنْتَ
	You two do / will hit. تَضْرِبَانِ	You two hit. ضَرَبْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all hit. You all will hit. آپ سب مارتے ہیں آپ سب ماریں گے	You all hit. آپ سب نے مارا	أَنْتُمْ
	تَضْرِبُونِ	ضَرَبْتُمْ	
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I hit. I will hit. میں مارتا ہوں میں ماریں گا	I hit. میں نے مارا	أَنَا
	أَضْرِبُ	ضَرَبْتُ	
	We hit. We will hit. ہم مارتے ہیں ہم ماریں گے	We hit. ہم نے مارا	نَحْنُ
	نَضْرِبُ	ضَرَبْنَا	
	فِعْلٌ - جَرِّ - اسم -	يَا تَأْنِ	وَأَتْتُمْ تَأْنًا

Negative مَنِي	Imperative أَمْرٌ	
Don't hit! مت مارا	لا تَضْرِبْ	Hit! مارا
Don't (you two) hit!	لا تَضْرِبَا	Hit (you two)!
Don't (you all) hit! مت مارو!	لا تَضْرِبُوا	Hit (you all)!
		مارو!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
one who is hit وہ جس کو مارا گیا	مَضْرُوبٌ	One who hits. مارنے والا
	ضَارِبٌ	ضَارِبَانِ، ضَارِبِينَ
those who are hit. وہ جن کو مارا گیا	مَضْرُوبُونَ، مَضْرُوبِينَ	Those who hit. مارنے والے
	ضَارِبُونَ، ضَارِبِينَ	

مَجْهُولٌ Passive Voice	(it, he) is being hit مارا جاتا ہے	يُضْرَبُ	(it, he) is hit مارا گیا	ضَرَبَ	هُوَ	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	---------------------------------------	----------	-----------------------------	--------	------	----------------------------

to wrong
ظلم کرنا

مَصْدَر (Verbal noun)

ظَلَمَ

بِسْمِ اللّٰهِ
ظ ل م

He wronged, treated
unjustly.

ظَلَمَ (266)
اس نے ظلم کیا

Starting verb in a
verbal sentence.
→
when the subject is
SING. or PLU.

Starting verb in a
verbal sentence.
←
when the subject is
SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
— هِ ا	He wrongs. He will wrong. وہ ظلم کرتا ہے وہ ظلم کرے گا	He wronged. اس نے ظلم کیا	هُوَ
— هُمَا	You two do/ will wrong.	They two wronged.	هُمَا
— هُمْ	They wrong. They will wrong. وہ ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کریں گے	They all wronged. انہوں نے ظلم کیا	هُمْ
— كَ	You wrong. You will wrong. آپ ظلم کرتے ہیں آپ ظلم کریں گے	You wronged. آپ نے ظلم کیا	أَنْتَ
— كُمَا	You two do / will wrong.	You two wronged.	أَنْتُمَا
— كُمْ	You all wrong. You all will wrong. آپ سب ظلم کرتے ہیں یا کریں گے	You all wronged. آپ سب نے ظلم کیا	أَنْتُمْ
— ي (with noun) — نِي (with verb)	I wrong. I will wrong. میں ظلم کرتا ہوں میں ظلم کروں گا	I wronged. میں نے ظلم کیا	أَنَا
— نَا	We wrong. We will wrong. ہم ظلم کرتے ہیں ہم ظلم کریں گے	We wronged. ہم نے ظلم کیا	نَحْنُ
— اسم - فَعْل - جَر -	ي ت ا ن	وَ ا ت تُمْ ت نَا	

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَاضِي

Past
continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative عِ	Imperative أَمْر	
Don't wrong! مت ظلم کرا	لا تَظْلَمْ	Wrong! ظلم کرا
Don't (you two) wrong!	لا تَظْلِمَا	Wrong (you two)!
Don't (you all) wrong! مت ظلم کرو!	لا تَظْلَمُوا	Wrong (you all)!
		ظلم کرو!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
one who is wronged وہ جس پر ظلم کیا گیا	مَظْلُومٌ	one who wrongs ظلم کرنے والا
	مَظْلُومَانِ، مَظْلُومَيْنِ	ظَالِمَانِ، ظَالِمَيْنِ
those who are wronged وہ جن پر ظلم کیا گیا	مَظْلُومُونَ، مَظْلُومِينَ	those who wrong ظلم کرنے والے
		ظَالِمُونَ، ظَالِمِينَ

مَجْهُول
Passive Voice

(it, he) is being wronged ظلم کیا جاتا ہے	يُظْلَمُ	(it, he) is wronged ظلم کیا گیا	ظَلِمَ	هُوَ
--	----------	------------------------------------	--------	------

مَجْهُول
Passive Voice

to hear مُصَدَّر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

س م ع

He heard. سَمِعَ (100) اس نے سنا

سنا سَمِعَ

Starting verb in a verbal sentence. →
when the subject is SING. or PLU.

← Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هُ - ا	He hear. He will hear. وہ سنتا ہے وہ سنتے گا	He heard. اس نے سنا	هُوَ
هُمَا - هُمَا	You two hear/ will hear. تسَمَعَانِ	They two heard. سَمِعَا	هُمَا
هُم - هُمْ	They hear. They will hear. وہ سنتے ہیں وہ سنتیں گے	They all heard. انہوں نے سنا	هُمْ
أَنْتَ - لَكَ	You hear. You will hear. آپ سنتے ہیں آپ سنتیں گے	You heard. آپ نے سنا	أَنْتَ
كُمَا - كُمْ	You two hear / will hear. تَسْمَعَانِ	You two heard. سَمِعْتُمَا	أَنْتُمَا
كُم - كُمْ	You all hear. You all will hear. آپ سب سنتے ہیں آپ سب سنتیں گے	You all heard. آپ سب نے سنا	أَنْتُمْ
أَنَا - ي (with noun) نِي (with verb)	I hear. I will hear. میں سنتا ہوں میں سنتوں گا	I heard. میں نے سنا	أَنَا
نَا - نَا	We hear. We will hear. ہم سنتے ہیں ہم سنتیں گے	We heard. ہم نے سنا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَر - اِسْم -	يَتَأَنَّ	وَأَتْتُمْ تَأَنَّا	

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَّاضِي

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative نَهْي	Imperative أَمْر	
Don't hear! مت سن!	Hear! سن!	Singular
Don't (you two) hear! لا تَسْمَعَا	Hear (you two)! اسْمَعَا	Dual
Don't (you all) hear! مت سنو!	Hear (you all)! اسْمَعُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
one who is heard وہ جس کو سنا گیا	one who hears سننے والا	Singular
مَسْمُوعَانِ، مَسْمُوعَيْنِ	سَامِعَانِ، سَامِعَيْنِ	Dual
those who are heard وہ جن کو سنا گیا	those who hear سننے والے	Plural
مَسْمُوعُونَ، مَسْمُوعِينَ	سَامِعُونَ، سَامِعِينَ	

مَجْهُول
Passive Voice →

is being heard. سنا جاتا ہے	يَسْمَعُ	is heard. سنا گیا	سَمِعَ	هُوَ
--------------------------------	----------	----------------------	--------	------

← مَجْهُول
Passive Voice

to know
جاننا
مُصَدَّر (Verbal noun)
عِلْم

بِسْمِ اللّٰهِ
ع ل م

He knew. عِلْمٌ (518)
اس نے جانا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He know. He will know. وہ جانتا ہے وہ جانے گا يَعْلَمُ	He knew. اس نے جانا عِلْمٌ	هوُ
	You two know/ will know. يَعْلَمَانِ	They two knew. عِلِمَا	هُمَا
	They know. They will know. وہ جانتے ہیں وہ جانیں گے يَعْلَمُونَ	They all knew. انہوں نے جانا عِلْمُوا	هُمْ
near future: سَنَ + مُضَارِع	You know. You will know. آپ جانتے ہیں آپ جانیں گے تَعْلَمُ	You knew. آپ نے جانا عِلِمْتَ	أَنْتَ
	You two know / will know. تَعْلَمَانِ	You two knew. عِلِمْتِمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all know. You all will know. آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانیں گے تَعْلَمُونَ	You all knew. آپ سب نے جانا عِلِمْتُمْ	أَنْتُمْ
	I know. I will know. میں جانتا ہوں میں جانوں گا أَعْلَمُ	I knew. میں نے جانا عِلِمْتُ	أَنَا
	We know. We will know. ہم جانتے ہیں ہم جانیں گے نَعْلَمُ	We knew. ہم نے جانا عِلِمْنَا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اسم -	يَ تَ ا نَ	وَ ا ت تُمْ تُ نَا

Negative مِ	Imperative أَمْرٌ	
Don't know! مت جان!	لا تَعْلَمُ	Know! جان لے!
Don't (you two) know!	لَا تَعْلَمَا	Know (you two)!
Don't (you all) know! مت جانو!	لَا تَعْلَمُوا	Know (you all)!
		جان لو!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
That which is known وہ جسے جانا گیا مَعْلُومٌ	Person of knowledge جاننے والا عَالِمٌ	Singular
مَعْلُومَانِ، مَعْلُومِينَ	عَالِمَانِ، عَالِمِينَ	Dual
those which are known وہ جنہیں جانا گیا مَعْلُومُونَ، مَعْلُومِينَ	People of knowledge جاننے والے عَالِمُونَ، عَالِمِينَ	Plural

مَجْهُول Passive Voice	يَعْلَمُ	عِلْمٌ	هوُ Passive Voice
(it) is being known. جانا جاتا ہے	(it) is known. جانا گیا		

to work; to do
عمل کرنا

مَصْدَر (Verbal noun)

عَمَل

بِسْمِ اللّٰهِ
ع م ل

He did. **عَمِلَ** (318)
اس نے عمل کیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He does. He will do. وہ عمل کرتا ہے وہ عمل کرے گا	He did. اس نے عمل کیا	هُوَ
	You two do/ will do.	They two did.	هُمَا
	They do. They will do. وہ عمل کرتے ہیں وہ عمل کریں گے	They all did. انہوں نے عمل کیا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You do. You will do. آپ عمل کرتے ہیں آپ عمل کریں گے	You did. آپ نے عمل کیا	أَنْتَ
	You two do/ will do.	You two did.	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all do. You all will do. آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے	You all did. آپ سب نے عمل کیا	أَنْتُمْ
	I do. I will do.	I did.	أَنَا
(with noun) يـ (with verb) نـ	میں عمل کرتا ہوں میں عمل کروں گا	میں نے عمل کیا	
	We do. We will do. ہم عمل کرتے ہیں ہم عمل کریں گے	We did. ہم نے عمل کیا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَوْر - اسم -	يَتَأَنَّ	وَأَتَتْكُمْ تَأَنَّ	

Negative عِي		Imperative أَمْرٌ		
Don't do! مت عمل کر!	لَا تَعْمَلْ	Do! عمل کر!	اعْمَلْ	Singular
Don't (you two) do!	لَا تَعْمَلَا	Do (you two)!	اعْمَلَا	Dual
Don't (you all) do! مت عمل کرو!	لَا تَعْمَلُوا	Do (you all)!	اعْمَلُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول		Active participle اسم فاعل		
		worker; doer عمل کرنے والا	عَامِلٌ	Singular
			عَامِلَانِ، عَامِلَيْنِ	Dual
		workers; doers عمل کرنے والے	عَامِلُونَ، عَامِلِينَ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice		مَجْهُولٌ Passive Voice

to go astray;
to err; to
waste
گمراہ ہونا
مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ
ض ل ل

He went astray. ضَلَّ (113)
وہ گمراہ ہوا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He goes astray. He will go astray. وہ گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہوگا	He went astray. وہ گمراہ ہوا	هُوَ
	You two do/ will go astray.	They went astray.	هُمَا
	They go astray. They will go astray. وہ گمراہ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوں گے	They all went astray. وہ گمراہ ہوئے	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You go astray. You will go astray. آپ گمراہ ہوتے ہیں آپ گمراہ ہوں گے	You went astray آپ گمراہ ہوئے	أَنْتَ
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You two do / will go astray.	You two went astray.	أَنْتُمَا
	You all go astray/ will go astray. آپ سب گمراہ ہوتے ہیں یا ہوں گے	You all went astray آپ سب گمراہ ہوئے	أَنْتُمْ
(with noun) -ي (with verb) -ي	I go astray. I will go astray. میں گمراہ ہوتا ہوں میں گمراہ ہوں گا	I went astray. میں گمراہ ہوا	أَنَا
	We go astray. We will go astray. ہم گمراہ ہوتے ہیں ہم گمراہ ہوں گے	We went astray. ہم گمراہ ہوئے	نَحْنُ
فَعْلٌ - جَر - اسم -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا	

Negative هِيَ	Imperative أَمْرٌ	
Don't go astray! مت گمراہ ہوا!	Go astray! گمراہ ہوا!	Singular
Don't (you two) go astray! مت گمراہ ہوا!	Go astray (you two)!	Dual
Don't (you all) go astray! مت گمراہ ہوا!	go astray (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	one who goes astray گمراہ ہونے والا	Singular
	ضَالَانِ، ضَالَيْنِ	Dual
	Those who go astray. گمراہ ہونے والے	Plural

مَجْهُولٌ		مَجْهُولٌ
Passive Voice		Passive Voice

to think; to believe
گمان کرنا

مَصْدَر (Verbal noun)

ظَنَّ

بِسْمِ اللّٰهِ
ظ ن ن

He thought/ he believed.
ظَنَّ (68)
اس نے گمان کیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He thinks. He will think. وہ گمان کرتا ہے وہ گمان کرے گا	He thought. He believed اس نے گمان کیا	هُوَ
	You two do/ will think. يُظَنُّنَ	They thought.	هُمَا
	They think. They will think. وہ گمان کرتے ہیں وہ گمان کریں گے	They all thought. انہوں نے گمان کیا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You think. You will think. آپ گمان کرتے ہیں آپ گمان کریں گے	You thought آپ نے گمان کیا	أَنْتَ
	You two do / will think. تُظَنُّنَا	You two thought.	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all think. You all will think. آپ سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے	You all thought آپ سب نے گمان کیا	أَنْتُمْ
	I think. I will think. میں گمان کرتا ہوں میں گمان کروں گا	I thought. میں نے گمان کیا	أَنَا
	We think. We will think. ہم گمان کرتے ہیں ہم گمان کریں گے	We thought. ہم نے گمان کیا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَرَّ - اسْمٌ	يَا تَ أَنْ	وَ تَ تُمْ تَ نَا

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ	
Don't think! مت گمان کر!	Think! گمان کر!	Singular
Don't (you two) think! مت گمان کرو!	Think (you two)!	Dual
Don't (you all) think! مت گمان کرو!	think (you all)! گمان کرو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	one who thinks / believes گمان کرنے والا	Singular
	ظَانٌّ، ظَانِّينَ	Dual
	Those who think / believe. گمان کرنے والے	Plural
	ظَانُّونَ، ظَانِّينَ	

مَجْهُولٌ Passive Voice	مَجْهُولٌ Passive Voice

to find
پانا
مَصْدَر (Verbal noun)
وَجُود

بِسْمِ اللّٰهِ
وَجَد

He found. وَجَدَ (107)
اس نے پایا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He finds. He will find. وہ پاتا ہے وہ پائے گا	He found. اس نے پایا	هُوَ
	You two find/ will find. يَجِدَانِ	They two found. وَجَدَا	هُمَا
	They find. They will find. وہ پاتے ہیں وہ پائیں گے	They all found. انہوں نے پایا	هُمْ
near future: سَنَ + مُضَارِعٌ	You find. You will find. آپ پاتے ہیں آپ پائیں گے	You found. آپ نے پایا	أَنْتَ
	You two find/ will find. تَجِدَانِ	You two found. وَجَدْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all find. You all will find. آپ سب پاتے ہیں آپ سب پائیں گے	You all found. آپ سب نے پایا	أَنْتُمْ
	تَجِدُونِ	وَجَدْتُمْ	
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I find. I will find. میں پاتا ہوں میں پاؤں گا	I found. میں نے پایا	أَنَا
	أَجِدُ	وَجَدْتُ	
	We find. We will find. ہم پاتے ہیں ہم پائیں گے	We found. ہم نے پایا	نَحْنُ
	نَجِدُ	وَجَدْنَا	
	فِعْلٌ - جَرِّ - اسْم	يَا تَأْنٍ	وَأَنْتُمْ تَأْنٍ

Negative عَنِ	Imperative أَمْرٌ	
Don't find! مت پا!	لا تَجِدْ	Find! پالے!
Don't (you two) find!	لا تَجِدَا	Find (you two)!
Don't (you all) find! مت پاؤ!	لا تَجِدُوا	Find (you all)!
		پالو!
		جَدْ
		جِدَا
		جِدُوا

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
that which is found وہ جس کو پایا گیا	مَوْجُودٌ	Finder پانے والا
	مَوْجُودَانِ، مَوْجُودَيْنِ	وَاجِدَانِ، وَاجِدَيْنِ
those which are found وہ جن کو پایا گیا	مَوْجُودُونَ، مَوْجُودِينَ	Finders. پانے والے
		وَاجِدُونَ، وَاجِدِينَ
		Singular
		Dual
		Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	يُوجَدُ	(it, he) is being found. پایا جاتا ہے	وَجَدَ	(it, he) is found پایا گیا	هُوَ	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	---------	--	--------	-------------------------------	------	----------------------------

to promise
وَعَدَ
مُضَرَّر (Verbal noun)

وَعَدَ
بِسْمِ اللّٰهِ

(124) وَعَدَ He promised.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَرَّرٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He promises. He will promise. وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ کرے گا ہ - ا	He promised. اس نے وعدہ کیا وَعَدَ	هُوَ
	You two promise/ will promise. وَمَا - ا	They two promised. وَعَدَا	هُمَا
	They promise. They will promise. وہ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ کریں گے ہم - ہ	They all promised. انہوں نے وعدہ کیا وَعَدُوا	ہُمْ
near future: س + مُضَرَّر	You promise. You will promise. آپ وعدہ کرتے ہیں آپ وعدہ کریں گے ل - ك	You promised. آپ نے وعدہ کیا وَعَدْتَّ	أَنْتَ
	You two promise/ will promise. كَمَا - ا	You two promised. وَعَدْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَرَّر	You all promise. You all will promise. آپ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے كُم - ك	You all promised. آپ سب نے وعدہ کیا وَعَدْتُمْ	أَنْتُمْ
(with noun) ي - ا	I promise. I will promise. میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کروں گا نِي - ا	I promised. میں نے وعدہ کیا وَعَدْتُ	أَنَا
	We promise. We will promise. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کریں گے نَا - ا	We promised. ہم نے وعدہ کیا وَعَدْنَا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَر - ا	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا	

Negative نہی	Imperative اَمْرٌ	
Don't promise! مت وعدہ کر!	Promise! وعدہ کر!	Singular
Don't (you two) promise! مت وعدہ کرو!	Promise (you two)! وعدہ کرو!	Dual
Don't (you all) promise! مت وعدہ کرو!	Promise (you all)! وعدہ کرو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
the one who is promised وہ جس سے وعدہ کیا گیا مَوْعُودٌ	one who gives promise وعدہ کرنے والا وَاعِدٌ	Singular
مَوْعُودَانِ، مَوْعُودَيْنِ	وَاعِدَانِ، وَاعِدَيْنِ	Dual
those who are promised وہ جن سے وعدہ کیا گیا مَوْعُودُونَ، مَوْعُودِينَ	those who promise وعدہ کرنے والے وَاعِدُونَ، وَاعِدِينَ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	(it, he) is being promised وعدہ کیا جاتا ہے يُوْعَدُ	(it, he) is promised وعدہ کیا گیا وُعِدَ	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	--	--	----------------------------

to say
کہنا
قَوْلُ (Verbal noun) مَصْدَرٌ

بِسْمِ اللّٰهِ
قَوْلٌ

He said. قَالَ (1719)
اس نے کہا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He says. He will say. وہ کہتا ہے وہ کہے گا	He said. اس نے کہا	Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.
	You two do/ will say. ہُمَا	They two said. قَالَا	
	They say. They will say. وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے	They all said. انہوں نے کہا	
near future: س + مُضَارِعٌ	You say. You will say. آپ کہتے ہیں آپ کہیں گے	You said. آپ نے کہا	near past: قَدْ + مَاضِيٌّ
	You two do/ will say. كُمَا	You two said. قَالْتُمَا	
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all say. You all will say. آپ سب کہتے ہیں آپ سب کہیں گے	You all said. آپ سب نے کہا	Past continuous: كَانَ + مُضَارِعٌ
	تَقُولُونَ	قَالْتُمْ	
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I say. I will say. میں کہتا ہوں میں کہوں گا	I said. میں نے کہا	
	أَقُولُ	قُلْتُ	
	We say. We will say. ہم کہتے ہیں ہم کہیں گے	We said. ہم نے کہا	
	نَقُولُ	قَلْنَا	
	فَعْلٌ - جَوْرَ اسم -	يَا تَأْنِ وَأْتِ تُمْ تَأْنِ	

Negative هِيَ	Imperative أَمْرٌ	
Don't say! مت کہہ!	Say! کہہ!	Singular
Don't (you two) say! مت کہو!	Say (you two)!	Dual
Don't (you all) say! مت کہو!	Say (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	the one who says; speaker کہنے والا	Singular
	قَائِلَانِ، قَائِلَيْنِ	Dual
	those who say کہنے والے	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	مَجْهُولٌ Passive Voice
(it) is being said کہا جاتا ہے	(it) is said کہا گیا

to be مَصْدَر (Verbal noun)
بونا كُون

بِسْمِ اللّٰهِ
ك و ن

He was/is. كَان (1361)
وہ تھا، وہ ہے

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He is He will be وہ ہے وہ ہو گا	He was / is وہ تھا، وہ ہے	هُوَ
	You two are/ will be	They two were	هُمَا
	They are They will be وہ ہیں وہ ہوں گے	They were وہ تھے	هُم
near future: سَ + مُضَارِع	You are You will be آپ ہیں آپ ہوں گے	You were آپ تھے	أَنْتَ
	You two are / will be	You two were.	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all are You all will be آپ سب ہیں آپ سب ہوں گے	You all were آپ سب تھے	أَنْتُمْ
	I am I will be. میں ہوں میں ہوں گا	I was میں تھا	أَنَا
	We are. We will be. ہم ہیں ہم ہوں گے	We were ہم تھے	نَحْنُ
فَانْ - اسم - كَر -	اَيَّتْ اَنْ	وَا ت تُمْ تْنَا	

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ	
Don't be! مت ہو!	Be! ہو جا!	Singular
Don't (you two) be!	Be (you two)!	Dual
Don't (you all) be! مت ہو جاؤ!	Be (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	the one which becomes.. ہو نے والا	Singular
	کَائِنَان، کَائِنَيْنِ	Dual
	those who become.. ہو نے والے	Plural

، she will be: تَكُونُ ، they (fg.) were: كُنَّ ، she was: كَانَتْ
، كُونِي: كُنْ (fg, pl) ، be! (fg)
، مَكَان: مكان

to increase مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

He increased. **زَادَ** (51) وہ زیادہ ہوا

زیادہ کرنا

زِيَادَةٌ

ز ي د

Starting verb in a verbal sentence. →
when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence. ←
when the subject is SING. or PLU.

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَاضِي

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
هُوَ - هِ	he increases He will increase وہ زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ کرے گا	He increased وہ زیادہ ہوا	هُوَ
هُمَا - هُمَا	You two increase / will increase تَزِيدَانِ	They two increased زَادَا	هُمَا
هُمْ - هُمْ	They increase They will increase وہ زیادہ کرتے ہیں وہ زیادہ کریں گے	They increased وہ زیادہ ہوئے	هُمْ
أَنْتَ - كَ	You increase You will increase آپ زیادہ کرتے ہیں آپ زیادہ کریں گے	You increased آپ زیادہ ہوئے	أَنْتَ
كُمَا - كُمْ	You two increase / will increase تَزِيدَانِ	You two increased. زُدُّمَا	كُمَا
كُم - كُمْ	You all increase You increase آپ سب زیادہ کرتے ہیں یا کریں گے	You all increased. آپ سب زیادہ ہوئے	كُم
(with noun) - ي (with verb) - نِي	I increase I will increase. میں زیادہ کرتا ہوں میں زیادہ کروں گا	I increased. میں زیادہ ہوا	أَنَا
نَا - نَا	We increase. We will increase. ہم زیادہ کرتے ہیں ہم زیادہ کریں گے	We increased. ہم زیادہ ہوئے	نَحْنُ
فعل - اسم - جَر -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا	

Negative عِ	Imperative أَمْر	
Don't increase! مت زیادہ کر!	لا تَزِدْ	Increase! زیادہ کر!
Don't (you two) increase!	لا تَزِيدَا	Increase (you two)! زیادہ کرو!
Don't (you all) increase! مت زیادہ کرو!	لا تَزِيدُوا	Increase (you all)! زیادہ کرو!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
increment, more مزید	مَزِيدٌ	extra زیادہ
مَزِيدَانِ، مَزِيدَيْنِ	زَائِدَانِ، زَائِدَيْنِ	
مَزِيدُونَ، مَزِيدِينَ	زَائِدُونَ، زَائِدِينَ	extras زیادہ

مَجْهُول
Passive Voice

--	--	--

مَجْهُول
Passive Voice

to call;
to pray
پکارنا، بلانا

مَصْدَر (Verbal noun)

دُعَاء

بِسْمِ اللّٰهِ
د ع و

He called / prayed. دَعَا (197)
اس نے پکارا، بلایا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He calls. He will call. وہ پکارتا ہے وہ پکارے گا	He called /invoked/ prayed. اس نے پکارا	هُوَ
	You two call/ will call. تدعون	They two called.	هُمَا
	They call. They will call. وہ پکارتے ہیں وہ پکاریں گے	They all called. انہوں نے پکارا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You call. You will call. آپ پکارتے ہیں آپ پکاریں گے	You called. آپ نے پکارا	أَنْتَ
	You two call/ will call. تدعون	You two called.	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all call. You all will call. آپ سب پکارتے ہیں آپ سب پکاریں گے	You all called. آپ سب نے پکارا	أَنْتُمْ
	I call. I will call. میں پکارتا ہوں میں پکاروں گا	I called. میں نے پکارا	أَنَا
	We call. We will call. ہم پکارتے ہیں ہم پکاریں گے	We called. ہم نے پکارا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَمْعٌ اسم - جَمْعٌ	يَا تَ اَنْ	وَا تَ تُمْ تَ اَنْ

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ	
Don't call! مت پکارا!	لا تَدْعُ	Singular
Don't (you two) call!	لا تَدْعُوَا	Dual
Don't (you all) call! مت پکارو!	لا تَدْعُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is called وہ جس کو پکارا گیا	مدعو	Singular
	مدعوَان، مدعوَيْن	Dual
those who are called وہ جن کو پکارا گیا	مدعوُون، مدعوِيْن	Plural

مَجْهُول Passive Voice	يُدْعَى	دُعِيَ	هُوَ مَجْهُول Passive Voice
(it, he) is being called پکارا جاتا ہے		(it, he) is called پکارا گیا	

to guide;
to direct
ہدایت دینا

مَصْدَر (Verbal noun)

هُدًى، هِدَايَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ
ہ د ی

He guided. هَدَى (163)
اس نے ہدایت دی

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هِ - اِ	He guides. He will guide. وہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت دے گا	He guided. اس نے ہدایت دی	هُوَ
هُمَا -	You two guide/ will guide. يَهْدِيَانِ	They two guided. هُمَا	هُمَا
هُمْ - هُمُ	They guide. They will guide. وہ ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت دیں گے	They all guided. انہوں نے ہدایت دی	هُمْ
أَنْتَ - لَكَ	You guide. You will guide. آپ ہدایت دیتے ہیں آپ ہدایت دیں گے	You guided. آپ نے ہدایت دی	أَنْتَ
كُمَا -	You two guide/ will guide. تَهْدِيَانِ	You two guided. كُمَا	أَنْتُمَا
كُم - كُمْ	You all guide. You all will guide. آپ سب ہدایت دیتے ہیں یا آپ سب ہدایت دیں گے	You all guided. آپ سب نے ہدایت دی	أَنْتُمْ
أَنَا - يَ (with noun) نِي - (with verb)	I guide. I will guide. میں ہدایت دیتا ہوں میں ہدایت دوں گا	I guided. میں نے ہدایت دی	أَنَا
نَا -	We guide. We will guide. ہم ہدایت دیتے ہیں ہم ہدایت دیں گے	We guided. ہم نے ہدایت دی	نَحْنُ
فَعْلٌ - جَرٌّ اسم -	يَ تَ اَنْ	وَ ا ت تُمْ تَ اَنْ	

near future:
سَ + مُضَارِعٌ

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِعٌ

near past:
قَدْ + مَّاضِيٌّ

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِعٌ

Negative عَنَى	Imperative أَمْرٌ	
Don't guide! مت ہدایت دے!	لا تَهْدِ	Guide! اہد
Don't (you two) guide! مت ہدایت دو!	لا تَهْدِيَا	Guide (you two)! اہدِيا
Don't (you all) guide! مت ہدایت دو!	لا تَهْدُوا	Guide (you all)! اہدُوا

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is guided وہ جس کو ہدایت دی گئی	مَهْدِيٌّ	One who guides ہدایت دینے والا
مَهْدِيَّانِ، مَهْدِيَّيْنِ	هَادِيَانِ، هَادِيَيْنِ	Dual
those who are guided وہ جن کو ہدایت دی گئی	مَهْدِيُّونَ، مَهْدِيَّيْنَ	Those who guide ہدایت دینے والے
	هَادُونَ، هَادِينَ	Plural

مَجْهُولٌ
Passive Voice

(it, he) is being guided ہدایت دیا جاتا ہے	يُهْدَى	(it, he) is guided ہدایت دی گئی	هُدِيَ	هُوَ
---	---------	------------------------------------	--------	------

مَجْهُولٌ
Passive Voice

to fear مُصَدَّر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

خوف
کھانا، ڈرنا

خَشِيَّةٌ

خ ش ي

He was afraid. خَشِيَ (48)
اس نے خوف کھایا، وہ ڈرا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He fears. He will fear. وہ خوف کھاتا ہے وہ خوف کھائے گا	He was afraid. اس نے خوف کھایا وہ ڈرا	هُوَ
	You two fear/ will fear. يَخْشِيَانِ	They two were afraid. خَشِيَا	هُمَا
	They fear. They will fear. وہ خوف کھاتے ہیں وہ خوف کھائیں گے	They all were afraid. انہوں نے خوف کھایا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You fear. You will fear. آپ خوف کھاتے ہیں آپ خوف کھائیں گے	You were afraid. آپ نے خوف کھایا	أَنْتَ
	You two fear/ will fear. تَخْشِيَانِ	You two were afraid. خَشِيْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all fear. You all will fear. آپ سب ڈرتے ہیں آپ سب ڈریں گے	You all were afraid. آپ سب نے خوف کھایا	أَنْتُمْ
	تَخْشَوْنَ	خَشِيْتُمْ	
(with noun) - ي (with verb) - نِي	I fear. I will fear. میں خوف کھاتا ہوں یا کھاؤں گا	I was afraid. میں نے خوف کھایا	أَنَا
	أَخْشَى	خَشِيْتُ	
	We fear. We will fear. ہم خوف کھاتے ہیں ہم خوف کھائیں گے	We were afraid. ہم نے خوف کھایا	نَحْنُ
	نَخْشَى	خَشِينَا	
فِعْلٌ - جَر - اسم	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت ا ن	

Negative عِي		Imperative أمر		
Don't fear! مت ڈرا	لَا تَخْشَ	Fear! ڈرا	اِخْشِ	Singular
Don't (you two) fear!	لَا تَخْشِيَا	Fear (you two)!	اِخْشِيَا	Dual
Don't (you all) fear! مت ڈرو!	لَا تَخْشَوْا	Fear (you all)!	اِخْشَوْا	Plural

Passive participle اسم مفعول		Active participle اسم فاعل		
		One who fears ڈرنے والا	خَاشٍ	Singular
			خَاشِيَانِ، خَاشِيَيْنِ	Dual
		Those who fear ڈرنے والے	خَاشُونَ، خَاشِينَ	Plural

مَجْهُول	مَجْهُول
Passive Voice	Passive Voice

to command
حکم دینا

مُصَدَّر (Verbal noun)

أَمْر

بِسْمِ اللّٰهِ
أَمْر

He ordered.
أَمَرَ (232)
اس نے حکم دیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He orders. He will order. وہ حکم دیتا ہے وہ حکم دے گا	He ordered. اس نے حکم دیا	هُوَ
	You two order/ will order. يَأْمُرَانِ	They two ordered. أَمَرَا	هُمَا
	They order. They will order. وہ حکم دیتے ہیں وہ حکم دیں گے	They all ordered. انہوں نے حکم دیا	هُمْ
near future: سَنَ + مُضَارِعٌ	You order. You will order. آپ حکم دیتے ہیں آپ حکم دیں گے	You ordered. آپ نے حکم دیا	أَنْتَ
	You two order/ will order. تَأْمُرَانِ	You two ordered. أَمَرْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all order. You all will order. آپ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے	You all ordered. آپ سب نے حکم دیا	أَنْتُمْ
	تَأْمُرُونَ	أَمَرْتُمْ	
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I order. I will order. میں حکم دیتا ہوں میں حکم دوں گا	I ordered. میں نے حکم دیا	أَنَا
	أَأْمُرُ	أَمَرْتُ	
	We order. We will order. ہم حکم دیتے ہیں ہم حکم دیں گے	We ordered. ہم نے حکم دیا	نَحْنُ
	نَأْمُرُ	أَمَرْنَا	
فِعْلٌ - جَرٌّ اسم -	يَتَأْمُرُ	وَأَمَرَ	

Negative عَنِ	Imperative أَمْرٌ	
Don't order! مت حکم دے!	لَا تَأْمُرْ	Order! حکم دے!
Don't (you two) order!	لَا تَأْمُرَا	Order (you two)!
Don't (you all) order! مت حکم دو!	لَا تَأْمُرُوا	Order (you all)!
		حکم دو!
		مُرْ
		مُرَا
		مُرُوا
		Singular
		Dual
		Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is ordered وہ جس کو حکم دیا گیا	مَأْمُورٌ	One who orders حکم دینے والا
	مَأْمُورَانِ، مَأْمُورَيْنِ	آمِرَانِ، آمِرَيْنِ
Those who are ordered وہ جن کو حکم دیا گیا	مَأْمُورُونَ، مَأْمُورِينَ	آمِرُونَ، آمِرِينَ
		Those who order حکم دینے والے
		Singular
		Dual
		Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	مَجْهُولٌ Passive Voice
(it, he) is being ordered حکم دیا جاتا ہے	يُؤْمَرُ
	أَمْرٌ
	هُوَ
	(it, he) is ordered حکم دیا گیا

to see
دیکھنا
رَآی (Verbal noun)
مَصْدَر

بِسْمِ اللّٰهِ
رَآی

He saw.
اس نے دیکھا
رَآی (269)

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He sees. He will see. وہ دیکھتا ہے وہ دیکھے گا	He saw. اس نے دیکھا	هُوَ
	You two see/ will see. يَرِيَان	They two saw. رَأَيَا	هُمَا
	They see. They will see. وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں گے	They all saw. انہوں نے دیکھا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You see. You will see. آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے	You saw. آپ نے دیکھا	أَنْتَ
	You two see/ will see. تَرِيَان	You two saw. رَأَيْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all see. You all will see. آپ سب دیکھتے ہیں آپ سب دیکھیں گے	You all saw. آپ سب نے دیکھا	أَنْتُمْ
	تَرُونَ	رَأَيْتُمْ	
(with noun) - ي (with verb) - نِي	I see. I will see. میں دیکھتا ہوں میں دیکھوں گا	I saw. میں نے دیکھا	أَنَا
	أَرِي	رَأَيْتُ	
	We see. We will see. ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھیں گے	We saw. ہم نے دیکھا	نَحْنُ
	نَرِي	رَأَيْنَا	
فِعْلٌ - جَرَّ اسم -	ي تَ أَنْ	وَأَنْتُمْ تَ أَنْ	

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ	
Don't see! مت دیکھا!	See! دیکھا!	Singular
Don't (you two) see! مت دیکھو!	See (you two)! دیکھو!	Dual
Don't (you all) see! مت دیکھو!	See (you all)! دیکھو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is seen وہ جس کو دیکھا گیا	One who sees دیکھنے والا	Singular
مَرِيَان، مَرِيَانِيْن	رَاءَان، رَاءَانِيْن	Dual
those who are seen وہ جن کو دیکھا گیا	Those who see دیکھنے والے	Plural
مَرِيُون، مَرِيِيْن	رَاءُون، رَاءِيْن	

مَجْهُول Passive Voice	مَجْهُول Passive Voice

to come
آنا
اَتِيَان (Verbal noun)
مَصْدَر

بِسْمِ اللّٰهِ
اَتَى

He came.
وہ آیا
اَتَى
He brought
وہ لایا
اَتَى ب (263)

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He comes. He will come. وہ آتا ہے وہ آئے گا يَأْتِي	He came. وہ آیا اَتَى	Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.
	You two come/ will come. يَأْتِيَان	They two came. اَتَيَا	
	They come. They will come. وہ آتے ہیں وہ آئیں گے يَأْتُون	They all came. وہ آئے اَتَوْا	
near future: سَ + مُضَارِع	You come. You will come. آپ آتے ہیں آپ آئیں گے تَأْتِي	You came. آپ آئے اَتَيْتَ	near past: قَدْ + مَّاضِي
	You two come/ will come. تَأْتِيَان	You two came. اَتَيْتُمَا	
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all come. You all will come. آپ سب آتے ہیں آپ سب آئیں گے تَأْتُونَ	You all came. آپ سب آئے اَتَيْتُمْ	Past continuous: كَانَ + مُضَارِع
(with noun) يـ (with verb) نـ	I come. I will come. میں آتا ہوں میں آؤں گا آتي	I came. میں آیا اَتَيْتُ	أَنَا
	We come. We will come. ہم آتے ہیں ہم آئیں گے نَأْتِي	We came. ہم آئے اَتَيْنَا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَوْر - اسم -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا	

Negative هـ	Imperative أمر	
Don't come! مت آ! لا تَأْتِ	Come! آ! اِتِ	Singular
Don't (you two) come! مت آؤ! لا تَأْتِيَا	Come (you two)! آؤ! اِتِيَا	Dual
Don't (you all) come! مت آؤ! لا تَأْتُوا	Come (you all)! آؤ! اِتُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
مَأْتِي	one who comes آنے والا آت	Singular
مَأْتِيَان، مَأْتِيَيْنِ	آتان، آتین	Dual
مَأْتِيُون، مَأْتِيَيْنِ	those who come آنے والے آتون، آتین	Plural

مَجْهُول Passive Voice	مَجْهُول Passive Voice

to will, to wish
چاہنا، ارادہ کرنا

مَصْدَر (Verbal noun)

مَشِيئَة

بِسْمِ اللّٰهِ
ش ي ء

He wished. شَاءَ (277)
اس نے چاہا، ارادہ کیا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He wishes. He will wish. وہ چاہتا ہے وہ چاہے گا	He wished / wanted / willed. اس نے چاہا، ارادہ کیا	Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.
	You two wish/ will wish. يَعِدَانِ	They two wished.	
	They wish. They will wish. وہ چاہتے ہیں وہ چاہیں گے	They all wished. انہوں نے چاہا	
near future: سَ + مُضَارِع	You wish. You will wish. آپ چاہتے ہیں آپ چاہیں گے	You wished. آپ نے چاہا	near past: قَدْ + مَاضِي
	You two wish/ will wish. تَعِدَانِ	You two wished.	
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all wish. You all will wish. آپ سب چاہتے ہیں آپ سب چاہیں گے	You all wished. آپ سب نے چاہا	Past continuous: كَانَ + مُضَارِع
	تَشَاءُونَ	You all wished.	
(with noun) - يَ	I wish. I will wish.	I wished.	
(with verb) - نِي	میں چاہتا ہوں میں چاہوں گا	میں نے چاہا	
	أَشَاءُ	أَنَا شِئْتُ	
	We wish. We will wish. ہم چاہتے ہیں ہم چاہیں گے	We wished. ہم نے چاہا	
	نَشَاءُ	نَحْنُ شِعْنَا	
فِعْلٌ - جَر - اسم	يَ تَ أ ن	وَ تَ تُمْ تَ نَا	

Negative عِي	Imperative أَمْر	
Don't wish! مت چاہ!	wish! چاہ!	Singular
Don't (you two) wish! مت چاہو!	wish (you two)!	Dual
Don't (you all) wish! مت چاہو!	wish (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	One who wishes. چاہنے والا	Singular
	شَاءَانِ، شَاءَيْنِ	Dual
	Those who wish. چاہنے والے	Plural

مَجْهُول
Passive Voice

مَجْهُول
Passive Voice

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

near future: سَ + مُضَارِع

near past: قَدْ + مَاضِي

distant future: سَوْفَ + مُضَارِع

Past continuous: كَانَ + مُضَارِع

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِي	Detached Pronouns
هـ - ا	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	هُوَ
هُمَا - هِمْا	يُفَعِّلَانِ	فَعَّلَا	هُمَا
هُمْ - هُمِ	يُفَعِّلُونَ	فَعَّلُوا	هُمْ
ك - كِ	تُفَعِّلُ	فَعَّلْتَ	أَنْتَ
كُمَا - كُمَا	تُفَعِّلَانِ	فَعَّلْتُمَا	أَنْتُمَا
كُم - كُمِ	تُفَعِّلُونَ	فَعَّلْتُمْ	أَنْتُمْ
ي - (with noun) نِي - (with verb)	أُفَعِّلُ	فَعَّلْتُ	أَنَا
نَا - نَا	نُفَعِّلُ	فَعَّلْنَا	نَحْنُ
فَعْلَ - جَر - اسم	ي ت ا ن	و ا ت ث م ت ن ا	

Negative نهي

Imperative امر

لَا تُفَعِّلُ	فَعِّلْ	Singular
لَا تُفَعِّلَا	فَعِّلَا	Dual
لَا تُفَعِّلُوا	فَعِّلُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول

Active participle اسم فاعل

مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	Singular
مُفَعَّلَانِ ، مُفَعِّلَيْنِ	مُفَعِّلَانِ ، مُفَعِّلَيْنِ	Dual
مُفَعَّلُونَ ، مُفَعِّلِينَ	مُفَعِّلُونَ ، مُفَعِّلِينَ	Plural

مَجْهُول
Passive Voice

يُفَعِّلُ	فَعِّلُ	هُوَ
-----------	---------	------

مَجْهُول
Passive Voice

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	هَـا- تُفَعِّلُ	فَعَّلَتْ	هِيَ
	هُمَا- تُفَعِّلَانِ	فَعَّلَتَا	هُمَا
	هُنَّ- يُفَعِّلْنَ	فَعَّلْنَ	هُنَّ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	ك- تُفَعِّلِينَ	فَعَّلْتِ	أَنْتِ
	كَمَا- تُفَعِّلَانِ	فَعَّلْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	كُنَّ- تُفَعِّلْنَ	فَعَّلْتُنَّ	أَنْتُنَّ
	ي- (with noun) نِي- (with verb) تُفَعِّلُ	فَعَّلْتُ	أَنَا
	نَا- نُفَعِّلُ	فَعَّلْنَا	نَحْنُ
	فَعَّلَ- جَو- اسم	يُتَانُ	تَنْ تَنْ تَنْ تَنَا

Negative لَيْ	Imperative أَمْرٌ	
لَا تُفَعِّلِي	فَعِّلِي	Singular
لَا تُفَعِّلَا	فَعِّلَا	Dual
لَا تُفَعِّلْنَ	فَعِّلْنَ	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
مُفَعَّلَةٌ	مُفَعِّلَةٌ	Singular
مُفَعَّلَتَانِ ، مُفَعَّلَتَيْنِ	مُفَعِّلَتَانِ ، مُفَعِّلَتَيْنِ	Dual
مُفَعَّلَاتٌ	مُفَعِّلَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	تُفَعِّلُ	فَعَّلْتُ	هُوَ Passive Voice

to teach مَصْدَر (Verbal noun)
تَعْلِيمِ سَكْهَانَا

بِسْمِ اللّٰهِ
ع ل م

He taught. عَلَّمَ (42)
اس نے سکھایا اس نے سَكْهَانَا
VT-2

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU. →	He teaches. He will teach. وہ سکھاتا ہے وہ سکھائے گا	He taught. اس نے سکھایا	هوُ ← Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.
— هُمَا	You two teach / will teach. يُعَلِّمَانِ	They two taught. عَلَّمَا	هُمَا
— هُمْ	They teach. They will teach. وہ سکھاتے ہیں وہ سکھائیں گے	They all taught. انہوں نے سکھایا	هُمْ
— كَ	You teach. You will teach. آپ سکھاتے ہیں آپ سکھائیں گے	You taught. آپ نے سکھایا	أَنْتَ
— كُمَا	You two teach / will teach. تُعَلِّمَانِ	You two taught. عَلَّمْتُمَا	أَنْتُمَا
— كُمْ	You all teach. You all will teach. آپ سب سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے	You all taught. آپ سب نے سکھایا	أَنْتُمْ
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I teach. I will teach. میں سکھاتا ہوں میں سکھاؤں گا	I taught. میں نے سکھایا	أَنَا
— نَا	We teach. We will teach. ہم سکھاتے ہیں ہم سکھائیں گے	We taught. ہم نے سکھایا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَر - اسم -	يَاتُ أَنْ	وَأَنْتُمْ تَنَا	

Negative نہي		Imperative امر		
Don't teach! مت سکھا !	لَا تُعَلِّمُ	Teach! سکھا !	عَلِّمُ	Singular
Don't (you two) teach!	لَا تُعَلِّمَا	Teach (you two)!	عَلِّمَا	Dual
Don't (you all) teach! مت سکھاؤ !	لَا تُعَلِّمُوا	Teach (you all)!	عَلِّمُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول		Active participle اسم فاعل		
The one who is taught. وہ جس کو سکھایا گیا	مُعَلَّمٌ	Teacher. سکھانے والا	مُعَلِّمٌ	Singular
The two who are taught.	مُعَلَّمَانِ، مُعَلَّمَيْنِ	Teachers (two).	مُعَلِّمَيْنِ، مُعَلِّمَانِ	Dual
All those who are taught. وہ جن کو سکھایا گیا	مُعَلَّمُونَ، مُعَلِّمِينَ	Teachers. سکھانے والے	مُعَلِّمِينَ، مُعَلِّمُونَ	Plural

مَجْهُول	Passive Voice	يُعَلِّمُ	عَلِّمُ	هوُ	مَجْهُول	Passive Voice
→	(He) is being taught. سکھایا جاتا ہے		(He) is taught. سکھایا گیا		←	

act (of accusing sb of falsehood) جھٹلانا

مَصْدَر (Verbal noun)

تَكْذِيب

بِسْمِ اللّٰهِ
ك ذ ب

He accused (him, it) of falsehood. كَذَّبَ (198)

اس نے جھٹلایا

VT-2

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. → when the subject is SING. or PLU.	He accuses (or will) sb of falsehood. وہ جھٹلاتا ہے وہ جھٹلائے گا	He accused (him, it) of falsehood. اس نے جھٹلایا	Starting verb in a verbal sentence. ← when the subject is SING. or PLU.
— هُـمَا	يُكْذِبَانِ	كَذَّبَا	هُمَا
— هُمْ	يُكْذِبُونَ	كَذَّبُوا	هُمْ
— كَـ	تُكْذِبُ	كَذَّبْتَ	أَنْتَ
— كُـمَا	تُكْذِبَانِ	كَذَّبْتُمَا	أَنْتُمَا
— كُمْ	تُكْذِبُونَ	كَذَّبْتُمْ	أَنْتُمْ
(with noun) — يـ (with verb) — نِيـ	I accuse (or will) sb of falsehood. میں جھٹلانا ہوں میں جھٹلاؤں گا	I accused sb of falsehood. میں نے جھٹلایا	أَنَا
— نَا	نُكْذِبُ	كَذَّبْنَا	نَحْنُ
فَعْلٌ — جَرٌ اسم —	يُكْذِبُ	كَذَّبَ	

Negative نهي		Imperative أمر		
Don't accuse sb of falsehood! مت جھٹلا!	لَا تُكْذِبْ	Accuse sb of falsehood! جھٹلا!	كَذَّبْ	Singular
	لَا تُكْذِبَا		كَذَّبَا	Dual
Don't (you all) accuse sb of falsehood! مت جھٹلاؤ!	لَا تُكْذِبُوا	Accuse sb of falsehood (you all)! جھٹلاؤ!	كَذَّبُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول		Active participle اسم فاعل		
The one who is accused of falsehood. وہ جس کو جھٹلایا گیا	مُكْذِبٌ	The one who accuses sb of falsehood. جھٹلانے والا	مُكْذِبٌ	Singular
	مُكْذِبَانِ ، مُكْذِبَيْنِ		مُكْذِبَانِ ، مُكْذِبَيْنِ	Dual
Those who are accused of falsehood. وہ جن کو جھٹلایا گیا	مُكْذِبُونَ ، مُكْذِبِينَ	Those who accuse sb of falsehood. جھٹلانے والے	مُكْذِبُونَ ، مُكْذِبِينَ	Plural

مَجْهُول	(He) is being accused of falsehood جھٹلایا جاتا ہے	يُكْذِبُ	(He) is accused of falsehood جھٹلایا گیا	كَذَّبَ	هُوَ	مَجْهُول
Passive Voice						Passive Voice

to send down مُصَدَّر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ
ن ز ل

He sent down. نَزَّلَ (79)
اس نے اتارا VT-2

اتارنا

تَنْزِيل

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هِ ا	He sends down. He will send down. وہ اتارتا ہے وہ اتارے گا	He sent down. اس نے اتارا	هُوَ
هُمَا -	You two send down/ will send down. تَنْزِلَانِ	They two sent down. تَنْزَلَا	هُمَا
هُمْ - هُمَ	They send down / will send down. وہ اتارتے ہیں وہ اتاریں گے	They all sent down. انہوں نے اتارا	هُمْ
أَنْتَ - كَ	You send down. You will send down. آپ اتارتے ہیں آپ اتاریں گے	You sent down. آپ نے اتارا	أَنْتَ
أَنْتُمَا - كُمَا	You two send down / will send down. تَنْزِلَانِ	You two sent down. تَنْزَلْتُمَا	أَنْتُمَا
أَنْتُمْ - كُمْ	You all send down / will send down. آپ سب اتارتے ہیں آپ سب اتاریں گے	You all sent down. آپ سب نے اتارا	أَنْتُمْ
أَنَا - ي (with noun) يَ (with verb)	I send down. I will send down. میں اتارتا ہوں میں اتاروں گا	I sent down. میں نے اتارا	أَنَا
أَنْتُمْ - نَا	We send down. We will send down. ہم اتارتے ہیں ہم اتاریں گے	We sent down. ہم نے اتارا	أَنْتُمْ
فَعْلٌ - جَرٌ اسم -	يَنْزِلُ أَنْ	نَزَلَ وَأَنْتُمْ تَنْزِلُ	

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Past continuous:
کان + مُضَارِع

Negative نهي	Imperative امر	
Don't send down! مت اتار!	Send down! اتار!	Singular
Don't (you two) send down! لَا تُنْزِلَا	Send down (you two)!	Dual
Don't (you all) send down! مت اتارو!	Send down (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
That which is sent down وہ جس کو اتارا گیا	The one who sends down اتارنے والا	Singular
مُنْزَلَانِ ، مُنْزَلَيْنِ	مُنْزِلَانِ ، مُنْزِلَيْنِ	Dual
Those which are sent down وہ جن کو اتارا گیا	Those who send down اتارنے والے	Plural
مُنْزَلُونَ ، مُنْزَلِينَ	مُنْزِلُونَ ، مُنْزِلِينَ	

مَجْهُول	مَجْهُول
Passive Voice	Passive Voice
(sb, st) is being sent down اتارا جاتا ہے	(sb, st) is sent down اتارا گیا
يُنْزَلُ	نَزَلَ هُوَ

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	هـ - ا	يُفَاعِلُ	فَاعِلٌ هُوَ
	هُمَا -	يُفَاعِلَانِ	فَاعِلَا هُمَا
	هُمْ -	يُفَاعِلُونَ	فَاعِلُوا هُمْ
	كـ -	تُفَاعِلُ	فَاعِلَتٌ أَنْتَ
	كُمَا -	تُفَاعِلَانِ	فَاعِلَتِمَا أَنْتُمَا
	كُم -	تُفَاعِلُونَ	فَاعِلَتِكُمْ أَنْتُمْ
	ي- (with noun) نِي- (with verb)	أُفَاعِلُ	فَاعِلَتِي أَنَا
	نَا -	نُفَاعِلُ	فَاعِلِنَا نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَوْر - اسم -	يُتَانُ	وَأَنْتُمْ تُنَانَا

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَاضِي

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ	
لَا تُفَاعِلُ	فَاعِلْ	Singular
لَا تُفَاعِلَا	فَاعِلَا	Dual
لَا تُفَاعِلُوا	فَاعِلُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	Singular
مُفَاعِلَانِ ، مُفَاعَلَيْنِ	مُفَاعِلَانِ ، مُفَاعِلَيْنِ	Dual
مُفَاعِلُونَ ، مُفَاعَلِينَ	مُفَاعِلُونَ ، مُفَاعِلِينَ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	يُفَاعَلُ	فُوعِلَ	هُوَ	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	-----------	---------	------	----------------------------

Feminine
Gender

مُؤنَّث

بِسْمِ اللّٰهِ
ف ع ل

فَاعَلَتْ

VT-3

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	هَآ- تُفَاعَلُ	فَاعَلَتْ	هِيَ
	هُمَا- تُفَاعَلَانِ	فَاعَلْتَا	هُمَا
	هُنَّ- يُفَاعَلْنَ	فَاعَلْنَ	هُنَّ
	ك- تُفَاعَلِينَ	فَاعَلْتِ	أَنْتِ
near future: سَ + مُضَارِع	كَمَا- تُفَاعَلَانِ	فَاعَلْتُمَا	أَنْتُمَا
	كُنَّ- تُفَاعَلْنَ	فَاعَلْتُنَّ	أَنْتُنَّ
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	ي- (with noun) نِي- (with verb) تُفَاعَلُ	فَاعَلْتُ	أَنَا
	نَا- نُفَاعَلُ	فَاعَلْنَا	نَحْنُ
	فَعَلَّ- اسم- جَر-	ي ت ا ن	ن ت ن ت ن ت نَا

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَّاضِيٌّ

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative هِيَ	Imperative أَمْرٌ	
لَا تُفَاعَلِي	فَاعَلِي	Singular
لَا تُفَاعَلَا	فَاعَلَا	Dual
لَا تُفَاعَلْنَ	فَاعَلْنَ	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
مُفَاعَلَةٌ	مُفَاعِلَةٌ	Singular
مُفَاعَلَتَانِ ، مُفَاعَلَتَيْنِ	مُفَاعِلَتَانِ ، مُفَاعِلَتَيْنِ	Dual
مُفَاعَلَاتٌ	مُفَاعِلَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ	تُفَاعَلُ	فُوعِلَتْ	هُوَ	مَجْهُولٌ
Passive Voice			Passive Voice	

to strive مَصْدَر (Verbal noun)
جہاد کرنا مُجَاهَدَة

بِسْمِ اللّٰهِ
ج ہ د

He strove. جَاهَدَ (31)
اس نے جہاد کیا اس نے جہاد کیا
VT-3

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He strives. He will strive. وہ جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرے گا	He strove. اس نے جہاد کیا	هُوَ
	You two strive/ will strive. تو دو جہاد کرو گے	They two strove. انہوں نے جہاد کیا	هُمَا
	They strive. They will strive. وہ جہاد کرتے ہیں وہ جہاد کریں گے	They all strove. انہوں نے جہاد کیا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You strive. You will strive. آپ جہاد کرتے ہیں آپ جہاد کریں گے	You strove. آپ نے جہاد کیا	أَنْتَ
	You two strive/ will strive. تو دو جہاد کرو گے	You two strove. انہوں نے جہاد کیا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all strive. You all will strive. آپ سب جہاد کرتے ہیں آپ سب جہاد کریں گے	You all strove. آپ سب نے جہاد کیا	أَنْتُمْ
	I strive. I will strive. میں جہاد کرتا ہوں میں جہاد کروں گا	I strove. میں نے جہاد کیا	أَنَا
	We strive. We will strive. ہم جہاد کرتے ہیں ہم جہاد کریں گے	میں نے جہاد کیا We strove. ہم نے جہاد کیا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَر - اسم -	يَا تَأْنِ	وَأَتْتُمْ تَأْنِ

Negative مَنْعِي	Imperative أَمْرٌ	
Don't strive! مت جہاد کر!	Strive! جہاد کر!	Singular
Don't (you two) strive! مت جہاد کرو!	Strive (you two)!	Dual
Don't (you all) strive! مت جہاد کرو!	Strive (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	One who strives جہاد کرنے والا	Singular
	مُجَاهِدَانِ، مُجَاهِدَيْنِ	Dual
	Those who strive جہاد کرنے والے	Plural
	مُجَاهِدُونَ، مُجَاهِدِينَ	

مَجْهُول Passive Voice	مَجْهُول Passive Voice

to call out مَصْدَر (Verbal noun)

پکارنا مُنَادَاة

بِسْمِ اللّٰهِ
ن د ی

He called out. (44) نَادَى

اس نے پکارا

VT-3

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
أ - هـ	He calls out. He will call out. وہ پکارتا ہے وہ پکارے گا	He called out. اس نے پکارا	هُوَ
هُمَا - هُمَا	You two call out/ will call out.	They two called out.	هُمَا
هُم - هُمْ	They call out. They will call out. وہ پکارتے ہیں وہ پکاریں گے	They all called out. انہوں نے پکارا	هُمْ
أنت - كَ	You call out. You will call out. آپ پکارتے ہیں آپ پکاریں گے	You called out. آپ نے پکارا	أَنْتَ
كُمَا - كُمْ	You two call out/ will call out.	You two called out.	أَنْتُمَا
كُم - كُمْ	You all call out. You all will call out. آپ سب پکارتے ہیں آپ سب پکاریں گے	You all called out.	أَنْتُمْ
أنا - ي (with noun) أنا - نِي (with verb)	I call out. I will call out. میں پکارنا ہوں میں پکاروں گا	آپ سب نے پکارا	أَنَا
أنا - نَا	We call out. We will call out. ہم پکارتے ہیں ہم پکاریں گے	میں نے پکارا We called out. ہم نے پکارا	نَحْنُ
فَعْلٌ - جَمْرٌ اسم -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت ن ا	

near future:
س + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَّاضِي

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative نَهْي

Imperative أَمْر

Negative نَهْي	Imperative أَمْر	
Don't call out! مت پکارا!	Call out! پکارا!	Singular
Don't (you two) call out! مت پکارو!	Call out (you two)!	Dual
Don't (you all) call out! مت پکارو!	Call out (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول

Active participle اسم فاعل

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is called out وہ جس کو پکارا گیا	One who calls out پکارنے والا	Singular
	مُنَادِيَانِ، مُنَادِيَيْنِ	Dual
	Those who call out پکارنے والے	Plural

مَجْهُول

Passive Voice

He is being called out. پکارا جاتا ہے	يُنَادَى	He is called out. پکارا گیا	نُودِي	هُوَ
--	----------	--------------------------------	--------	------

مَجْهُول

Passive Voice

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هِ	يُفَعِّلُ	أَفَعَّلَ	هُوَ
هُمَا - هِ	يُفَعِّلَانِ	أَفَعَّلَا	هُمَا
هُمْ - هِ	يُفَعِّلُونَ	أَفَعَّلُوا	هُمْ
أَنْتَ - كِ	تُفَعِّلُ	أَفَعَّلْتَ	أَنْتَ
كُنتَ - كِ	تُفَعِّلَانِ	أَفَعَّلْتُمَا	أَنْتُمَا
كُنتُمْ - كِ	تُفَعِّلُونَ	أَفَعَّلْتُمْ	أَنْتُمْ
أَنَا - ي (with noun) أَنَا - نِي (with verb)	أُفَعِّلُ	أَفَعَّلْتُ	أَنَا
أَنَا - نَا	نُفَعِّلُ	أَفَعَّلْنَا	نَحْنُ
أَفْعَلٌ - جَر - اسْم	يُتُّ أَنْ	وَأَنْتُمْ تَنَا	

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

near past:
قَدْ + مَاضِي

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative نَهْي

Imperative أَمْر

لَا تُفَعِّلُ	أَفَعِّلْ	Singular
لَا تُفَعِّلَانِ	أَفَعِّلَا	Dual
لَا تُفَعِّلُونَ	أَفَعِّلُوا	Plural

Passive participle اسْمُ مَفْعُولٍ

Active participle اسْمُ فَاعِلٍ

مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	Singular
مُفَعَّلَانِ ، مُفَعَّلَيْنِ	مُفَعِّلَانِ ، مُفَعِّلَيْنِ	Dual
مُفَعَّلُونَ ، مُفَعَّلِينَ	مُفَعِّلُونَ ، مُفَعِّلِينَ	Plural

مَجْهُول
Passive Voice

يُفَعِّلُ	أَفَعِّلُ	هُوَ
-----------	-----------	------

مَجْهُول
Passive Voice

Feminine
Gender

مُؤنَّث

بِسْمِ اللّٰهِ
ف ع ل

أَفْعَلْتُ

VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِي	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	ها- تُفَعِّلُ	أَفْعَلْتُ	هي
	هُمَا- تُفَعِّلَانِ	أَفْعَلْتُمَا	هُمَا
	هُنَّ- يُفَعِّلْنَ	أَفْعَلْنَ	هُنَّ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	ك- تُفَعِّلِينَ	أَفْعَلْتِ	أَنْتِ
	كُمَا- تُفَعِّلَانِ	أَفْعَلْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	كُنَّ- تُفَعِّلْنَ	أَفْعَلْتُنَّ	أَنْتُنَّ
	ي- (with noun) نِي- (with verb) أَفْعَلُ	أَفْعَلْتُ	أَنَا
	نَا- نُفَعِّلُ	أَفْعَلْنَا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - اسم - جَوْر	ي ت ا ن	ت ن ت ت ن ت ن ا

Negative نهي

Imperative أمر

لا تُفَعِّلِي	أَفْعَلِي	Singular
لا تُفَعِّلَا	أَفْعَلَا	Dual
لا تُفَعِّلْنَ	أَفْعَلْنَ	Plural

Passive participle اسم مفعول

Active participle اسم فاعل

مُفَعَّلَةٌ	مُفَعِّلَةٌ	Singular
مُفَعَّلَاتَانِ ، مُفَعَّلَتَيْنِ	مُفَعِّلَاتَانِ ، مُفَعِّلَتَيْنِ	Dual
مُفَعَّلَاتٌ	مُفَعِّلَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	تُفَعِّلُ	أَفْعَلْتُ	هي	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	-----------	------------	----	----------------------------

to bring out مُصَدَّر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

He brought out. (108) أَخْرَجَ
اس نے باہر نکالا

VT-4

باہر نکالنا
إِخْرَاجٌ

خ ر ج

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هُوَ	He brings out. He will bring out. وہ باہر نکالتا ہے وہ باہر نکالے گا	He brought out/ took out. اس نے باہر نکالا	هُوَ
أَنْتَ - هُمَا	You two bring out/ will bring out. يُخْرِجَانِ	They two brought. أَخْرَجَا	هُمَا
أَنْتُمْ - هُمْ	They bring out. They will bring out. وہ باہر نکالتے ہیں وہ باہر نکالیں گے	They all brought out. انہوں نے باہر نکالا	هُمْ
أَنْتَ - كَ - سَ + مُضَارِعٌ	You bring out. You will bring out. آپ باہر نکالتے ہیں آپ باہر نکالیں گے	You brought out. آپ نے باہر نکالا	أَنْتَ
أَنْتُمْ - كُمْ - سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all bring out/ will bring out. يُخْرِجُونَ	You two brought. أَخْرَجْتُمَا	أَنْتُمْ
أَنْتُمْ - كُمْ - سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all bring out/ will bring out. آپ سب باہر نکالتے ہیں یا نکالیں گے	You all brought out. آپ سب نے باہر نکالا	أَنْتُمْ
أَنَا - نَحْنُ	I bring out. I will bring out. میں باہر نکالتا ہوں میں باہر نکالوں گا	I brought out. میں نے باہر نکالا	أَنَا
أَنْتُمْ - كُمْ - سَوْفَ + مُضَارِعٌ	We bring out. We will bring out. ہم باہر نکالتے ہیں ہم باہر نکالیں گے	We brought out. ہم نے باہر نکالا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَرٌّ	يَتَأَنَّ	وَأَتَمَّتْ تَأَنًا	

near future:
سَ + مُضَارِعٌ

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِعٌ

near past:
قَدْ + مَّاضِيٌّ

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِعٌ

Negative مَنْعِيٌّ	Imperative أَمْرٌ	
Don't bring out! مت باہر نکال !	لا تُخْرِجْ	Bring out! باہر نکال !
Don't (you two) bring out!	لا تُخْرِجَا	Bring out (you two)!
Don't (you all) bring out! مت باہر نکالو !	لا تُخْرِجُوا	Bring out (you all)!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is brought out وہ جس کو باہر نکالا گیا	مُخْرَجٌ	One who brings out باہر نکالتے والا
مُخْرَجَانِ، مُخْرَجَيْنِ	مُخْرَجَانِ، مُخْرَجَيْنِ	
Those who are brought out وہ جن کو باہر نکالا گیا	مُخْرَجُونَ، مُخْرَجِينَ	Those who bring out باہر نکالتے والے

مَجْهُولٌ
Passive Voice

(it, he) is being brought out باہر نکالا جاتا ہے	يُخْرِجُ	(it) is brought out باہر نکالا گیا	أَخْرَجَ	هُوَ
---	----------	---------------------------------------	----------	------

مَجْهُولٌ
Passive Voice

to submit مَصْدَر (Verbal noun)
حکم ماننا

بِسْمِ اللّٰهِ
س ل م

He submitted. (72) اَسْلَمَ
اس نے حکم مانا

VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He submits. He will submit. وہ حکم مانتا ہے وہ حکم مانے گا	He submitted. اس نے حکم مانا	هُوَ
	You two submit/ will submit. ہُمَا	They two submitted. اَسْلَمَا	هُمَا
	They submit. They will submit. وہ حکم مانتے ہیں وہ حکم مانیں گے	They all submitted. انہوں نے حکم مانا	هُمْ
near future: س + مُضَارِع	You submit. You will submit. آپ حکم مانتے ہیں آپ حکم مانیں گے	You submitted. آپ نے حکم مانا	أَنْتَ
	You two submit/ will submit. كُمَا	You two submitted. اَسْلَمْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all submit. You all will submit. آپ سب حکم مانتے ہیں یا مانیں گے	You all submitted. آپ سب نے حکم مانا	أَنْتُمْ
	I submit. I will submit. میں حکم مانتا ہوں میں حکم مانوں گا	I submitted. میں نے حکم مانا	أَنَا
	We submit. We will submit. ہم حکم مانتے ہیں ہم حکم مانیں گے	We submitted. ہم نے حکم مانا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اسم	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا

Negative هِيَ	Imperative أمر	
Don't submit! مت حکم مان!	لا تُسَلِّم	Singular
Submit!	أَسْلِم	
Don't (you two) submit!	لا تُسَلِّمَا	Dual
Submit (you two)!	أَسْلِمَا	
Don't (you all) submit! مت حکم مانو!	لا تُسَلِّمُوا	Plural
Submit (you all)!	أَسْلِمُوا	

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	One who submits حکم مانتے والا	مُسَلِّم
		Singular
		مُسَلِّمَانِ، مُسَلِّمَيْنِ
		Dual
	Those who submit حکم مانتے والے	مُسَلِّمُونَ، مُسَلِّمِينَ
		Plural

مَجْهُول	مَجْهُول
Passive Voice	Passive Voice

to associate partners
شَرِكُ كَرْنَا

مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ
ش ر ك

He associated partners.
اس نے شریک کیا

(120) أَشْرَكَ

VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He associates (or will..) partners with.. وہ شرک کرتا ہے وہ شرک کرے گا	He associated partners (with). اس نے شریک کیا	Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.
	You two associate partners (with) ہمّا	They two associated partners. اَشْرَكَا	
	They associate (or will..) partners with.. وہ شرک کرتے ہیں وہ شرک کریں گے	They all associated partners (with). انہوں نے شریک کیا	
near future: سَ + مُضَارِع	You associate (or will..) partners with.. آپ شرک کرتے ہیں آپ شرک کریں گے	You associated partners (with). آپ نے شریک کیا	near past:. قَدْ + مَاضِيٌّ
	You two associate partners (with) كُمَا	You two associated partners (with). اَشْرَكْتُمَا	
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all associate (or will..) partners with.. آپ سب شرک کرتے ہیں یا کریں گے	You all associated partners (with). آپ سب نے شریک کیا	Past continuous: كَانَ + مُضَارِع
	اَشْرَكُوْنَ	اَشْرَكْتُمْ	
(with noun) - يَ (with verb) - نِي	I associate (or will..) partners with.. میں شرک کرتا ہوں میں شرک کروں گا	i associated partners (with). میں نے شریک کیا	
	اَشْرَكْتُ	اَشْرَكْتُ	
	We associate (or will..) partners with.. ہم شرک کرتے ہیں ہم شرک کریں گے	We associated partners (with). ہم نے شریک کیا	
	نَشْرِكُ	اَشْرَكْنَا	
	نَا		
	فَعْلٌ - جَر - اسم	يَ تَ اُنْ	وَ ا ت تُمْ تَ اُنْ

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ	
Don't associate partners (with)! مت شرک کر!	لا تُشْرِكْ	Associate partners (with)! شرک کر!
Don't (you two) associate partners (with)!	لا تُشْرِكَا	Associate partners (with) (you two)!
Don't (you all) associate partners (with)! مت شرک کرو!	لا تُشْرِكُوا	Associate partners (with) (you all)!
		شرک کرو!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One with whom st is associated with وہ جس کو شریک کیا گیا	مُشْرِكٌ	One who associates partners (with)s شرک کرنے والا
	مُشْرِكَانِ، مُشْرِكَيْنِ	
Those with whom st is associated with وہ جن کو شریک کیا گیا	مُشْرِكُونَ، مُشْرِكِينَ	Those who associate partners (with) شرک کرنے والے

مَجْهُول Passive Voice	(He) is being associated with partners شریک کیا جاتا ہے	مَجْهُول Passive Voice	(He) is associated with partners شریک کیا گیا
	يُشْرِكُ		أَشْرَكَ
	هُوَ		هُوَ

to send down مَصْدَر (Verbal noun)

نازل کرنا اِنزَال

بِسْمِ اللّٰهِ
ن ز ل

He sent down. اَنْزَلَ (190)

اس نے نازل کیا

VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He sends down. He will send down. وہ نازل کرتا ہے وہ نازل کرے گا	He sent down. اس نے نازل کیا	هُوَ
	They 2 send down. They 2 ... ہُمَا	They two sent down. اَنْزَلَا	هُمَا
	They send down / will send down. وہ نازل کرتے ہیں وہ نازل کریں گے	They all sent down. انہوں نے نازل کیا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You send down. You will send down. آپ نازل کرتے ہیں آپ نازل کریں گے	You sent down. آپ نے نازل کیا	أَنْتَ
	You two send down / will send down ہُمَا	You two sent down. اَنْزَلْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all send down. You all will ... آپ سب نازل کرتے ہیں یا کریں گے	You all sent down. آپ سب نے نازل کیا	أَنْتُمْ
	I send down. I will send down. میں نازل کرتا ہوں میں نازل کروں گا	I sent down. میں نے نازل کیا	أَنَا
	We send down. We will send down. ہم نازل کرتے ہیں ہم نازل کریں گے	We sent down. ہم نے نازل کیا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اسم	يَا تَأَن	وَأَتْتُم تَأَن

Negative فِي	Imperative أَمْرٌ	
Don't send down! مت نازل کر!	Send down! نازل کر!	Singular
Don't (you two) send down! مت نازل کرو!	Send down (you two)! نازل کرو!	Dual
Don't (you all) send down! مت نازل کرو!	Send down (you all)! نازل کرو!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
That which is sent down وہ جس کو نازل کیا گیا	One who sends down نازل کرنے والا	Singular
مُنزَلَانِ، مُنَزَّلَيْنِ	مُنزِلَانِ، مُنَزِّلَيْنِ	Dual
Those which are sent down وہ جن کو نازل کیا گیا	Those who send down نازل کرنے والے	Plural
مُنزَلُونَ، مُنَزَّلِينَ	مُنزِلِينَ، مُنَزِّلِينَ	

مَجْهُولٌ Passive Voice	مَجْهُولٌ Passive Voice
(He) is being sent down نازل کیا جاتا ہے	(He) is sent down نازل کیا گیا
يُنزَلُ	أُنزِلُ
هُوَ	هُوَ

to send sb astray مَصْدَر (Verbal noun)
گمراہ کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ
ض ل ل

He sent sb astray. (68) أَضَلَّ
اس نے گمراہ کیا VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He sends sb astray. He will... وہ گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ کرے گا يُضِلُّ	He sent sb astray. اس نے گمراہ کیا أَضَلَّ	هُوَ
	You two send sb astray يُضِلُّنِ	They two sent sb astray. أَضَلَّتَا	هُمَا
	They send sb astray. / They will... وہ گمراہ کرتے ہیں وہ گمراہ کریں گے يُضِلُّونَ	They all sent sb astray. انہوں نے گمراہ کیا أَضَلُّوا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You send sb astray. They will... آپ گمراہ کرتے ہیں آپ گمراہ کریں گے تُضِلُّ	You sent sb astray. آپ نے گمراہ کیا أَضَلَّتَ	أَنْتَ
	You two send sb astray تُضِلُّنِ	You two sent sb astray. أَضَلَّتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all send sb astray / You all... آپ سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے تُضِلُّونَ	You all sent sb astray. آپ سب نے گمراہ کیا أَضَلَلْتُمْ	أَنْتُمْ
(with noun) يـ	I send sb astray. I will send sb astray. میں گمراہ کرتا ہوں میں گمراہ کروں گا أُضِلُّ	I sent sb astray. میں نے گمراہ کیا أَضَلَلْتُ	أَنَا
(with verb) نـ	We send sb astray. we will ... ہم گمراہ کرتے ہیں ہم گمراہ کریں گے نُضِلُّ	We sent sb astray. ہم نے گمراہ کیا أَضَلَلْنَا	نَحْنُ
فِعْلٌ جَزْءٌ - اسم	يُضِلُّ	يُضِلُّ	يُضِلُّ

Negative نهي	Imperative أَمْرٌ
Don't send sb astray! مت گمراہ کر! لَا تُضِلُّ	Send sb astray! گمراہ کر! أَضِلُّ
Don't (you two) send sb astray! لَا تُضِلُّنِ	Send sb astray (you two)! أَضِلُّنِ
Don't (you all) send sb astray! مت گمراہ کرو! لَا تُضِلُّوا	Send sb astray (you all)! گمراہ کرو! أَضِلُّوا

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل
One who is sent astray وہ جس کو گمراہ کیا گیا مُضَلٌّ	One who send sb astray گمراہ کرنے والا مُضِلٌّ
مُضَلَّانِ، مُضَلَّيْنِ	مُضِلَّانِ، مُضِلَّيْنِ
Those who are sent astray وہ جن کو گمراہ کیا گیا مُضَلُّونَ، مُضَلَّيْنِ	Those who send sb astray گمراہ کرنے والے مُضِلُّونَ، مُضِلَّيْنِ

مَجْهُولٌ	مَجْهُولٌ
Passive Voice (He) is being sent astray گمراہ کیا جاتا ہے يُضِلُّ	Passive Voice (He) is sent astray گمراہ کیا گیا أُضِلُّ هُوَ

to want
ارادہ کرنا

مَصْدَر (Verbal noun)

إِرَادَة

بِسْمِ اللّٰهِ
ر و د

He wanted. **أَرَادَ (139)**
اس نے ارادہ کیا

VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He wants. He will want. وہ ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ کرے گا	He wanted. اس نے ارادہ کیا	هُوَ
	You two want/ will want. ہُمَا	They two wanted. أَرَادَا	هُمَا
	They want. They will want. وہ ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ کریں گے	They all wanted. انہوں نے ارادہ کیا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	You want. You will want. آپ ارادہ کرتے ہیں آپ ارادہ کریں گے	You wanted. آپ نے ارادہ کیا	أَنْتَ
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You two want/ will want. كُمَا	You two wanted. أَرَدْتُمَا	أَنْتُمَا
	You all want. You all will want. آپ سب ارادہ کرتے ہیں یا کریں گے	You all wanted. آپ سب نے ارادہ کیا	أَنْتُمْ
	I want. I will want. میں ارادہ کرتا ہوں میں ارادہ کروں گا	I wanted. میں نے ارادہ کیا	أَنَا
	We want. We will want. ہم ارادہ کرتے ہیں ہم ارادہ کریں گے	We wanted. ہم نے ارادہ کیا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اسم	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا

Negative مُحْيٍ	Imperative أَمْرٌ	
Don't want! ارادہ کرو!	لا تُرِدْ	Want! ارادہ کر!
Don't (you two) want!	لا تُرِيدَا	Want (you two)!
Don't (you all) want! مت ارادہ کرو!	لا تُرِيدُوا	Want (you all)!
		ارادہ کرو!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
That which is wanted وہ جس کا ارادہ کیا گیا	مُرَادٌ	One who wants ارادہ کرنے والا
	مُرَادَانِ، مُرَادَيْنِ	مُرِيدَانِ، مُرِيدَيْنِ
Those who are wanted وہ جن کا ارادہ کیا گیا	مُرَادُونَ، مُرَادِينَ	Those who want ارادہ کرنے والے
		مُرِيدُونَ، مُرِيدِينَ

مَجْهُولٌ	Passive Voice	(it, he) is being wanted ارادہ کیا جاتا ہے	يُرَادُ	(it) is wanted ارادہ کیا گیا	أُرِيدُ	هُوَ	مَجْهُولٌ	Passive Voice

to show مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ
ر ا ي

He showed. اَرَى (44)
اس نے دکھایا
VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He shows. He will show. وہ دکھاتا ہے وہ دکھائے گا	He showed. اس نے دکھایا	هُوَ
	You two show/ will show. ہُمَا	They two showed. اَرَيَا	هُمَا
	They show. They will show. وہ دکھاتے ہیں وہ دکھائیں گے	They all showed. انھوں نے دکھایا	هُم
near future: سَ + مُضَارِع	You show. You will show. آپ دکھاتے ہیں آپ دکھائیں گے	You showed. آپ نے دکھایا	أَنْتَ
	You two show/ will show. كُمَا	You two showed. اَرَيْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all show. You all will show. آپ سب دکھاتے ہیں آپ سب دکھائیں گے	You all showed. آپ سب نے دکھایا	أَنْتُمْ
	I show. I will show. میں دکھاتا ہوں میں دکھاؤں گا	I showed. میں نے دکھایا	أَنَا
	We show. We will show. ہم دکھاتے ہیں ہم دکھائیں گے	We showed.	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَوْر - اسم -	يَا تَأْنِ	وَأَتْتُم تَأْنَا

near future:
سَ + مُضَارِع

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِع

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

near past:
قَدْ + مَّاضِيٌّ

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِع

Negative نَهْيٌ	Imperative اَمْرٌ	
Don't show! مت دکھا!	Show! دکھا!	Singular
Don't (you two) show! مت دکھاؤ!	Show (you two)! دکھاؤ!	Dual
Don't (you all) show! مت دکھاؤ!	Show (you all)! دکھاؤ!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
one who is shown وہ جس کو دکھایا گیا	One who shows دکھانے والا	Singular
	مُرَّان	Dual
	مُرُون، مَرِين	Plural

مَجْهُول	Passive Voice	Passive Voice	مَجْهُول
	(it) is being shown دکھایا جاتا ہے	يُرَى	(it) is shown دکھایا گیا
		أَرَى	

to believe مَصْدَر (Verbal noun)
ایمان لانا اِيْمَان

بِسْمِ اللّٰهِ
اَم ن

He believed. (782) وَه اِيْمَان لَابَا
VT-4

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِي	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He believes. He will believe. وه ايمان لانا يه وه ايمان لانا كا	He believed. وه ايمان لابا	هُوَ
	You two believe/ will believe. هُمَا	They two believed. آمَنَّا	هُمَا
	They believe. They will believe. وه ايمان لانه يه وه ايمان لانه كه	They all believed. وه ايمان لانه	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You believe. You will believe. آپ ايمان لانه يه آپ ايمان لانه كه	You believed. آپ ايمان لانه	أَنْتَ
	You two believe/ will believe. كُما	You two believed. آمَنْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all believe. You all will believe. آپ سب ايمان لانه يه آپ سب ايمان لانه كه	You all believed. آپ سب ايمان لانه	أَنْتُمْ
	I believe. I will believe. میں ايمان لانا ہوں میں ايمان لاناؤں گا	I believed. میں ايمان لابا	أَنَا
	We believe. We will believe. ہم ايمان لانه يه ہم ايمان لانه كه	We believed. ہم ايمان لانه	نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَر - اسم	يَا تَأْنُ	وَأْتُمْ تَأْنَا

Negative مَنِي	Imperative أَمْر	
Don't believe! مت ايمان لا!	Believe! ايمان لا!	Singular
Don't (you two) believe! مت ايمان لاؤ!	Believe (you two)! ايمان لاؤ!	Dual
Don't (you all) believe! مت ايمان لاؤ!	Believe (you all)! ايمان لاؤ!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	One who believes ايمان لانه والا	Singular
	مُؤْمِنَان، مُؤْمِنَتَيْنِ	Dual
	Those who believe ايمان لانه والے	Plural

مَجْهُول Passive Voice	مَجْهُول Passive Voice

تَفَعَّلُ

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هِ أَ - هِ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	هُوَ
هُمَا - هُمَا	يَتَفَعَّلَانِ	تَفَعَّلَا	هُمَا
هُم - هُم	يَتَفَعَّلُونَ	تَفَعَّلُوا	هُم
أَنْتَ - كَ	تَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْتَ	أَنْتَ
كُمَا - كُمَا	تَتَفَعَّلَانِ	تَفَعَّلْتُمَا	أَنْتُمَا
كُم - كُم	تَتَفَعَّلُونَ	تَفَعَّلْتُمْ	أَنْتُمْ
أنا (with noun) - ي (with verb) - نِي	أَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْتُ	أَنَا
نَا - نَا	نَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْنَا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَوْزٌ اسْمٌ -	يَ تَ أَنْ	وَ تَ تُمْ تَ نَا	

near future:
سَ + مُضَارِعٌ

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِعٌ

near past:
قَدْ + مَاضِيٌّ

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِعٌ

Negative نَهْيٌ

Imperative أَمْرٌ

Negative نَهْيٌ	Imperative أَمْرٌ	
لَا تَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْ	Singular
لَا تَتَفَعَّلَا	تَفَعَّلَا	Dual
لَا تَتَفَعَّلُوا	تَفَعَّلُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول

Active participle اسم فاعل

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	Singular
مُتَفَعَّلَانِ ، مُتَفَعَّلَيْنِ	مُتَفَعِّلَانِ ، مُتَفَعِّلَيْنِ	Dual
مُتَفَعَّلُونَ ، مُتَفَعَّلِينَ	مُتَفَعِّلُونَ ، مُتَفَعِّلِينَ	Plural

مَجْهُولٌ
Passive Voice

يُتَفَعَّلُ	تُفَعَّلُ	هُوَ
-------------	-----------	------

مَجْهُولٌ
Passive Voice

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	هَـا- تَفَعَّلُ	تَفَعَّلَتْ	هِيَ
	هُمَا- تَفَعَّلَانِ	تَفَعَّلَتَا	هُمَا
	هُنَّ- يَتَفَعَّلْنَ	تَفَعَّلْنَ	هُنَّ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	ك- تَتَفَعَّلِينَ	تَفَعَّلْتِ	أَنْتِ
	كُما- تَتَفَعَّلَانِ	تَفَعَّلْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	كُنَّ- تَتَفَعَّلْنَ	تَفَعَّلْتُنَّ	أَنْتُنَّ
	ي- (with noun) نِي- (with verb) أَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْتُ	أَنَا
	نَا- نَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلْنَا	نَحْنُ
فَعْلٌ - جَرٌ - اسْمٌ	يَ تَ أَنْ	تَ نَ تِ تَنْ تَ نَا	Plane of تَفَعَّلُ

Negative هِيَ	Imperative أَمْرٌ	
لَا تَتَفَعَّلِي	تَفَعَّلِي	Singular
لَا تَتَفَعَّلَا	تَفَعَّلَا	Dual
لَا تَتَفَعَّلْنَ	تَفَعَّلْنَ	Plural

Passive participle اسْمٌ مَفْعُولٌ	Active participle اسْمٌ فَاعِلٌ	
مُتَفَعَّلَةٌ	مَتَفَعَّلَةٌ	Singular
مُتَفَعَّلَتَانِ ، مُتَفَعَّلَتَيْنِ	مَتَفَعَّلَتَانِ ، مَتَفَعَّلَتَيْنِ	Dual
مُتَفَعَّلَاتٌ	مَتَفَعَّلَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	تُتَفَعَّلُ	تُفَعَّلْتُ	هُوَ	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	-------------	-------------	------	----------------------------

to receive admonition; to remember
نصیحت پکڑنا

مَصْدَر (Verbal noun)

تَذَكَّرُ

بِسْمِ اللّٰهِ
ذَكَرَ

He received admonition;
he remembered.

اس نے نصیحت پکڑی

(51) تَذَكَّرَ

VT-5

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
اَ - هِ	He receives admonition / He will.. وہ نصیحت پکڑتا ہے وہ نصیحت پکڑے گا	He received admonition. اس نے نصیحت پکڑی	هُوَ
هُمَا - هُمَا	You two ..	They two received admonition.	هُمَا
هُم - هُمْ	They receive admonition / They will.. وہ نصیحت پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے	They all received admonition. انہوں نے نصیحت پکڑی	هُم
اَنْتَ - اَنْتَ	You receive admonition / You will.. آپ نصیحت پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے	You received admonition. آپ نے نصیحت پکڑی	اَنْتَ
اَنْتُمَا - اَنْتُمَا	You two..	You two received admonition.	اَنْتُمَا
اَنْتُمْ - اَنْتُمْ	You all receive admonition / You'll.. آپ نصیحت پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے	You all received admonition. آپ سب نے نصیحت پکڑی	اَنْتُمْ
اَنَا - اَنَا (with noun) اَنَا (with verb) اَنَا	I receive admonition / I will ... میں نصیحت پکڑتا ہوں یا پکڑوں گا	I received admonition. میں نے نصیحت پکڑی	اَنَا
اَنْا - اَنْا	We receive admonition / We'll .. ہم نصیحت پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے	We received admonition. ہم نے نصیحت پکڑی	اَنْا
اَسْمُ - اَسْمُ فِعْلٌ - اَسْمُ	اَسْمُ	اَسْمُ	اَسْمُ

Starting verb in a verbal sentence.
when the subject is SING. or PLU.

Negative مَنِي	Imperative اَمْرٌ
Don't receive admonition! مت نصیحت پکڑ ! لَا تَتَذَكَّرُ	Receive admonition! نصیحت پکڑ ! تَذَكَّرُ
Don't receive admonition (you two)! لا تَتَذَكَّرَا	Receive admonition (you two)! تَذَكَّرَا
Don't receive admonition (you all)! مت نصیحت پکڑو ! لَا تَتَذَكَّرُوا	Receive admonition (you all)! نصیحت پکڑو ! تَذَكَّرُوا

Passive participle اِسْمُ مَفْعُولٍ	Active participle اِسْمُ فَاعِلٍ
	one who receives admonition نصیحت پکڑنے والا مُتَذَكَّرٌ
	مَتَذَكَّرَانِ ، مَتَذَكَّرَيْنِ
	Those who receive admonition نصیحت پکڑنے والے مَتَذَكَّرُونَ ، مَتَذَكَّرِينَ

مَجْهُولٌ
Passive Voice

--	--	--

مَجْهُولٌ
Passive Voice

to turn away; to take charge

مَصْدَر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

He turned away; took as friend; took charge

(79) تَوَلَّى VT-5

منہ موڑنا، دوستی کرنا، حاکم ہونا

تَوَلَّى

وَلَّى

اس نے منہ موڑا، دوستی کی، حاکم ہوا

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِي	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	، - هِ He turn aways. He will turn away. وہ منہ موڑتا ہے وہ منہ موڑے گا	تَوَلَّى He turned away. He took charge. اس نے منہ موڑا	هُوَ Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.
	- هُمَا They turn away. They will turn away. وہ منہ موڑتے ہیں وہ منہ موڑیں گے	تَوَلَّيَا They turned away. انہوں نے منہ موڑا	هُمَا
	- هُمْ You turn away. You will turn away. آپ منہ موڑتے ہیں آپ منہ موڑیں گے	تَوَلَّيْتَ You turned away. آپ نے منہ موڑا	أَنْتَ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	- كَمَا You all turn away. You all will ... آپ سب منہ موڑتے ہیں یا موڑیں گے	تَوَلَّيْتُمْ You all turned away. آپ سب نے منہ موڑا	أَنْتُمْ near past:: قَدْ + مَاضِي
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	(with noun) - ي (with verb) - نِي I turn away. I will turn away. میں منہ موڑتا ہوں میں منہ موڑوں گا	أَتَوَلَّى I turned away. میں نے منہ موڑا	أَنَا Past continuous: كان + مُضَارِعٌ
	- نَا We turn away. We will turn away. ہم منہ موڑتے ہیں ہم منہ موڑیں گے	تَوَلَّيْنَا We turned away. ہم نے منہ موڑا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَر - اسم	ي ت ا ن وا ت ث م ت ا	

Negative لَمْ	Imperative أَمْرٌ
Don't turn away! مت منہ موڑ!	تَوَلَّ منہ موڑ!
Don't (you two) turn away! لَا تَتَوَلَّ	تَوَلَّا Turn away (you two)!
Don't (you all) turn away! مت منہ موڑو!	تَوَلَّوْا Turn away (you all)!

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل
	مُتَوَلِّي One who turns away. منہ موڑنے والا
	مُتَوَلِّيَانِ، مُتَوَلِّيَيْنِ Dual
	مُتَوَلِّونَ، مُتَوَلِّينَ Those who turn away. منہ موڑنے والے

مَجْهُول Passive Voice	مَجْهُول Passive Voice

اِفْتَعَلَ

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	هـ - ا	اِفْتَعَلَ	هُوَ
	هَمَا - ا	اِفْتَعَلَا	هُمَا
	هُم - ا	اِفْتَعَلُوا	هُمْ
	ك - ا	اِفْتَعَلْتَ	أَنْتَ
	كَمَا - ا	اِفْتَعَلْتَمَا	أَنْتُمَا
	كُم - ا	اِفْتَعَلْتُمْ	أَنْتُمْ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	ي - ا (with noun) ي - ا (with verb)	اِفْتَعَلْتُ	أَنَا
	نَا - ا	اِفْتَعَلْنَا	نَحْنُ
	اِفْعَالٌ - اسْمٌ - جَرٌ	ي ت ا ن	ا - و ا ت ت م ت ن ا

near future:
سَ + مُضَارِعٌ

distant future:
سَوْفَ + مُضَارِعٌ

near past:
قَدْ + مَاضِيٌّ

Past continuous:
كَانَ + مُضَارِعٌ

Negative عِي	Imperative أَمْرٌ	
لَا تَفْتَعَلْ	اِفْتَعَلْ	Singular
لَا تَفْتَعَلَا	اِفْتَعَلَا	Dual
لَا تَفْتَعَلُوا	اِفْتَعَلُوا	Plural

Passive participle اسْمُ مَفْعُولٍ	Active participle اسْمُ فَاعِلٍ	
مُفْتَعَلٌ	مُفْتَعِلٌ	Singular
مُفْتَعَلَانِ ، مُفْتَعَلَيْنِ	مُفْتَعِلَانِ ، مُفْتَعِلَيْنِ	Dual
مُفْتَعَلُونَ ، مُفْتَعَلِينَ	مُفْتَعِلُونَ ، مُفْتَعِلِينَ	Plural

مَجْهُولٌ	يُفْتَعَلُ	اِفْتَعَلَ	هُوَ	مَجْهُولٌ
Passive Voice				Passive Voice

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِي	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	ها- تَفْتَعَلُ	اَفْتَعَلْتُ	هي
	هُمَا- تَفْتَعَلَانِ	اَفْتَعَلْتَا	هُمَا
	هُنَّ- يَفْتَعَلْنَ	اَفْتَعَلْنَ	هُنَّ
near future: سَ + مُضَارِعٌ	ك- تَفْتَعَلِينَ	اَفْتَعَلْتِ	أَنْتِ
	كُما- تَفْتَعَلَانِ	اَفْتَعَلْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	كَنَّ- تَفْتَعَلْنَ	اَفْتَعَلْتُنَّ	أَنْتُنَّ
	ي- (with noun) نِي- (with verb) أَفْتَعَلُ	اَفْتَعَلْتُ	أَنَا
	نَا- نَفْتَعَلُ	اَفْتَعَلْنَا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَوْر - اِسْمٌ	تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ	اَفْتَعَلُ Plane of

Negative هِيَ	Imperative أَمْرٌ	
لَا تَفْتَعَلِي	اَفْتَعَلِي	Singular
لَا تَفْتَعَلَانِ	اَفْتَعَلَا	Dual
لَا تَفْتَعَلْنَ	اَفْتَعَلْنَ	Plural

Passive participle اِسْمٌ مَفْعُولٌ	Active participle اِسْمٌ فَاعِلٌ	
مُفْتَعَلَةٌ	مُفْتَعَلَةٌ	Singular
مُفْتَعَلَتَانِ ، مُفْتَعَلَتَيْنِ	مُفْتَعَلَتَانِ ، مُفْتَعَلَتَيْنِ	Dual
مُفْتَعَلَاتٌ	مُفْتَعَلَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	تَفْتَعَلُ	اَفْتَعَلْتُ	هي	مَجْهُولٌ Passive Voice
----------------------------	------------	--------------	----	----------------------------

to follow
پیروی کرنا
مَصْدَر (Verbal noun)
اَتَّبَعَ

بِسْمِ اللّٰهِ
ت ب ع

He followed. (140)
اس نے پیروی کی
اَتَّبَعَ
VT-8

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He takes up. He will follow. وہ پیروی کرتا ہے وہ پیروی کرے گا اَتَّبَعُ	He followed. اس نے پیروی کی اَتَّبَعَ	هُوَ
	You two follow/ will follow. اَتَّبِعَانِ	They two followed. اَتَّبَعَا	هُمَا
	They follow. They will follow. وہ پیروی کرتے ہیں وہ پیروی کریں گے اَتَّبِعُونَ	They all followed. انہوں نے پیروی کی اَتَّبَعُوا	هُمْ
near future: س + مُضَارِعٌ	You follow. You will follow. آپ پیروی کرتے ہیں آپ پیروی کریں گے اَتَّبِعْ	You followed. آپ نے پیروی کی اَتَّبَعْتَ	أَنْتَ
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You two follow / will follow. اَتَّبِعَانِ	You two followed. اَتَّبَعْتُمَا	أَنْتُمَا
	You all follow. You all will follow. آپ سب پیروی کرتے ہیں آپ سب پیروی کریں گے اَتَّبِعُونَ	You all followed. آپ سب نے پیروی کی اَتَّبَعْتُمْ	أَنْتُمْ
(with noun) -ي (with verb) -نِي	I follow. I will follow. میں پیروی کرتا ہوں میں پیروی کروں گا اَتَّبِعُ	I followed. میں نے پیروی کی اَتَّبَعْتُ	أَنَا
	We follow. We will follow. ہم پیروی کرتے ہیں ہم پیروی کریں گے نَتَّبِعُ	We followed. ہم نے پیروی کی اَتَّبَعْنَا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَر - اسم -	اَتَّبِعْ اَنْ	اَتَّبَعْتُمْ اَنْ	

Negative مَنِي	Imperative أَمْرٌ
Don't follow! مت پیروی کر! لَا تَتَّبِعْ	Follow! پیروی کر! اَتَّبِعْ
Don't (you two) follow! لا تَتَّبِعَا	Follow (you two)! اَتَّبِعَا
Don't (you all) follow! مت پیروی کرو! لَا تَتَّبِعُوا	Follow (you all)! پیروی کرو! اَتَّبِعُوا

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
one who is followed وہ جس کی پیروی کی گئی مَتَّبَعٌ	one who follows پیروی کرنے والا مُتَّبِعٌ	Singular
مَتَّبِعَانِ، مَتَّبِعَيْنِ	مُتَّبِعَانِ، مُتَّبِعَيْنِ	Dual
those who are followed وہ جن کی پیروی کی گئی مَتَّبِعُونَ، مَتَّبِعِينَ	those who follow پیروی کرنے والے مُتَّبِعُونَ، مُتَّبِعِينَ	Plural

مَجْهُول
Passive Voice

(He, it) is being followed پیروی کی جاتی ہے يَتَّبَعُ	(He, it) is followed پیروی کی گئی اَتَّبَعَ	هُوَ
---	---	------

مَجْهُول
Passive Voice

to find or follow the right path
 مَصْدَر (Verbal noun)
 اِهْتَدَاءُ هِدَايَت پانا

بِسْمِ اللّٰهِ
 ه د ي

He found the right path.
 اس نے هِدَايَت پانى

(61) اِهْتَدَى
 VT-8

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He finds the path. He will .. وہ هِدَايَت پاتا ہے وہ هِدَايَت پاے گا	He found the path. اس نے هِدَايَت پانى	هُوَ
	ہمّا -	يَهْتَدَانِ	هُمَا
	They find the path. They will.. وہ هِدَايَت پاتے ہيں وہ هِدَايَت پاين گے	يَهْتَدُونَ	هُم
near future: سَ + مُضَارِع	You find the path. You will.. آپ هِدَايَت پاتے ہيں يا پائين گے	تَهْتَدِي	أَنْتِ
	کَمَا -	تَهْتَدَانِ	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all find the path / You all will.. آپ سب هِدَايَت پاتے ہيں يا پائين گے	تَهْتَدُونَ	أَنْتُمْ
	ي - (with noun) نِي - (with verb)	أَهْتَدِي	أَنَا
	We find the path. We will.. ہم هِدَايَت پاتے ہيں ہم هِدَايَت پاين گے	نَهْتَدِي	نَحْنُ
	فَعْلٌ - جَوْر - اسم -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت گ ا

Negative نہی	Imperative اَمْر	
Don't find the path! مت هِدَايَت پا !	لا تَهْتَدِي	Find the path! اِهْتَدِ
Don't (you two) find the path! مت هِدَايَت پاؤ !	لا تَهْتَدَا	Find the path (you two)! اِهْتَدَا
Don't (you all) find the path! مت هِدَايَت پاؤ !	لا تَهْتَدُوا	Find the path (you all)! اِهْتَدُوا

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
	one who finds the path هِدَايَت پانے والا	مُهْتَدِي
		مُهْتَدَانِ ، مُهْتَدَيْنِ
	those who find the path هِدَايَت پانے والے	مُهْتَدُونَ ، مُهْتَدِينَ

مَجْهُول Passive Voice	مَجْهُول Passive Voice
he is being shown the path هِدَايَت دی جاتی ہے	يُهْتَدِي
he is shown the path هِدَايَت دی گئی	أُهْتَدِي
	هُوَ

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُّضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	هـ - ا	اِسْتَفْعَلَ	هُوَ
	هِيَا -	اِسْتَفْعَلَا	هُمَا
	هُم -	اِسْتَفْعَلُوا	هُمْ
	ك -	اِسْتَفْعَلْتَ	أَنْتَ
	كَمَا -	اِسْتَفْعَلْتُمَا	أَنْتُمَا
	كُم -	اِسْتَفْعَلْتُمْ	أَنْتُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	ي - (with noun) نِي - (with verb)	اِسْتَفْعَلْتُ	أَنَا
	نَا -	اِسْتَفْعَلْنَا	نَحْنُ
	فَعْلٌ - اسم - جَر -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا

Negative نَهْي

Imperative اَمْر

لا تَسْتَفْعَلُ	اِسْتَفْعَلْ	Singular
لا تَسْتَفْعَلَا	اِسْتَفْعَلَا	Dual
لا تَسْتَفْعَلُوا	اِسْتَفْعَلُوا	Plural

Passive participle اسم مفعول

Active participle اسم فاعل

مُسْتَفْعَلٌ	مُسْتَفْعَلٌ	Singular
مُسْتَفْعَلَانِ ، مُسْتَفْعَلَيْنِ	مُسْتَفْعَلَانِ ، مُسْتَفْعَلَيْنِ	Dual
مُسْتَفْعَلُونَ ، مُسْتَفْعَلِينَ	مُسْتَفْعَلُونَ ، مُسْتَفْعَلِينَ	Plural

مَجْهُول
Passive Voice

يَسْتَفْعَلُ	اِسْتَفْعَلُ	هُوَ
--------------	--------------	------

مَجْهُول
Passive Voice

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِي	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.	ها- تَسْتَفْعَلُ	هي- اسْتَفْعَلَتْ	Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. FEM. or BROKEN PLU.
	هُمَا- تَسْتَفْعَلَانِ	هُمَا- اسْتَفْعَلْتُمَا	
	هُنَّ- يَفْعَلْنَ	هُنَّ- اسْتَفْعَلْنَ	
near future: سَ + مُضَارِعٌ	ك- تَسْتَفْعَلِينَ	أنتِ- اسْتَفْعَلْتِ	near past: قَدْ + مَاضِي
	كُمَا- تَسْتَفْعَلَانِ	أنتِ- اسْتَفْعَلْتُمَا	
distant future: سَوْفَ + مُضَارِعٌ	كُنَّ- تَسْتَفْعَلْنَ	أنتنَّ- اسْتَفْعَلْتُنَّ	Past continuous: كَانَ + مُضَارِعٌ
	ي- (with noun) نِي- (with verb) أَسْتَفْعَلُ	أنا- اسْتَفْعَلْتُ	
	نَا- نَسْتَفْعَلُ	نحنُ- اسْتَفْعَلْنَا	
	فَعْلٌ - جَوْر - اسْمٌ	تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ تَنْ	

Negative هِيَ	Imperative أَمْرٌ	
لا تَسْتَفْعَلِي	اسْتَفْعَلِي	Singular
لا تَسْتَفْعَلَا	اسْتَفْعَلَا	Dual
لا تَسْتَفْعَلْنَ	اسْتَفْعَلْنَ	Plural

Passive participle اسْمٌ مَفْعُولٌ	Active participle اسْمٌ فَاعِلٌ	
مُسْتَفْعَلَةٌ	مُسْتَفْعَلَةٌ	Singular
مُسْتَفْعَلَتَانِ ، مُسْتَفْعَلَتَيْنِ	مُسْتَفْعَلَتَانِ ، مُسْتَفْعَلَتَيْنِ	Dual
مُسْتَفْعَلَاتٌ	مُسْتَفْعَلَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	تُسْتَفْعَلُ	اسْتَفْعَلَتْ	هي Passive Voice
----------------------------	--------------	---------------	---------------------

to ask for forgiveness
مَغْفِرَتِ جَابِئَا
مَصْدَر (Verbal noun)
اِسْتِغْفَار

بِسْمِ اللّٰهِ
غ ف ر

He asked for forgiveness.
اِسْتِغْفَرَ (42)
اس نے مغفرت چاہی
VT-10

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَاضِيٌّ	Detached Pronouns
Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.	He asks for forgiveness / He'll.. وہ مغفرت چاہتا ہے یا چاہے گا اِسْتِغْفِرُ	He asked for forgiveness. اس نے مغفرت چاہی اِسْتِغْفَرَ	هو
	You two ask / will ask .. اِسْتِغْفِرَانِ	They two asked for forgiveness. اِسْتِغْفَرَا	هُمَا
	They ask for forgiveness / They'll.. وہ مغفرت چاہتے ہیں یا چاہیں گے اِسْتِغْفِرُوْنَ	They all asked for forgiveness. انہوں نے مغفرت چاہی اِسْتِغْفَرُوا	هُمْ
near future: سَ + مُضَارِع	You ask for forgiveness / You'll.. آپ مغفرت چاہتے ہیں یا چاہیں گے اِسْتِغْفِرُ	You asked for forgiveness. آپ نے مغفرت چاہی اِسْتِغْفَرْتَ	أَنْتَ
	You two ask / will ask for ... اِسْتِغْفِرَانِ	You two asked for forgiveness. اِسْتِغْفَرْتُمَا	أَنْتُمَا
distant future: سَوْفَ + مُضَارِع	You all ask for forgiveness / You all.. آپ سب مغفرت چاہتے ہیں، چاہیں گے اِسْتِغْفِرُوْنَ	You all asked for forgiveness. آپ سب نے مغفرت چاہی اِسْتِغْفَرْتُمْ	أَنْتُمْ
	I ask for forgiveness / I will .. میں مغفرت چاہتا ہوں یا چاہوں گا اِسْتِغْفِرُ	I asked for forgiveness. میں نے مغفرت چاہی اِسْتِغْفَرْتُ	أَنَا
	We ask for forgiveness / We'll.. ہم مغفرت چاہتے ہیں یا چاہیں گے اِسْتِغْفِرُ	We asked for forgiveness. ہم نے مغفرت چاہی اِسْتِغْفَرْنَا	نَحْنُ
	فِعْلٌ - جَر - اِسْم -	ي ت ا ن	و ا ت ت م ت نا

Negative فِي	Imperative أَمْر	
Don't ask for forgiveness! مت مغفرت چاہا لَا تَسْتَغْفِرُ	Ask for forgiveness! مغفرت چاہا اِسْتِغْفِرُ	Singular
لَا تَسْتَغْفِرَا	اِسْتِغْفِرَا	Dual
Don't ask for forgiveness (you all)! مت مغفرت چاہوا لَا تَسْتَغْفِرُوا	Ask for forgiveness (you all)! مغفرت چاہوا اِسْتِغْفِرُوا	Plural

Passive participle اِسْمٌ مَفْعُولٌ	Active participle اِسْمٌ فَاعِلٌ	
one who is asked for forgiveness وہ جس سے مغفرت چاہی گئی مُسْتَغْفَرٌ	one who asks for forgiveness مغفرت چاہنے والا مُسْتَغْفِرٌ	Singular
مُسْتَغْفَرَانِ ، مُسْتَغْفَرَيْنِ	مُسْتَغْفِرَانِ ، مُسْتَغْفِرَيْنِ	Dual
those who are asked for forgiveness وہ جن سے مغفرت چاہی گئی مُسْتَغْفَرُونَ ، مُسْتَغْفَرَاتٌ	those who ask for forgiveness مغفرت چاہنے والے مُسْتَغْفِرُونَ ، مُسْتَغْفِرَاتٌ	Plural

مَجْهُولٌ Passive Voice	مَجْهُولٌ Passive Voice
is being asked for forgiveness مغفرت چاہی جاتی ہے يَسْتَعْفِرُ	is asked for forgiveness مغفرت چاہی گئی اِسْتَعْفِرُ